

قیب حضرت کے لیے راہنما کتاب

# انذارِ لغابت



مصنف

ساجد احمد آصف حیدری

چینی کتب خانہ

فیصل آباد

نقیب حضرت کئیے راہنما کتاب

# الایمان

مُصَنَّف

صاحبزادہ محمد توصیف حیدری

چشتی کتب خانہ فیصل آباد

ارشد مارکیٹ جنگ بازار

# جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

مہم کتاب اندازِ نقابت

تصنیف صاحبزادہ محمد توصیف حسینی

کمپوزنگ چشتی کمپوزنگ

تعداد ایک ہزار

سن اشاعت پانچواں ایڈیشن 2008

پہلا ایڈیشن ۱۴۲۹ھ ربیع النور

طابع محمد شفیق مجاہد چشتی

ہدیہ = 260 روپے



زبیہ سنٹر، ۴، اڈو بازار، لاہور  
فون: 042-7246006

شیر برادرز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# انتساب

عاشق رسول حکیم الامت  
ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ کے نام

محمد توفیق حسین

# نہارِ عقیدت

بمضور عاشقِ رسول شہیدِ حرمتِ رسول

حضرت غازی علم الدین شہیدؒ

محمد توحیف ہیدر

# فہرست

|    |                     |    |                         |
|----|---------------------|----|-------------------------|
| ۳۰ | بہار کا موسم        | ۹  | تاثرات                  |
| ۳۲ | نظرِ رحمت           | ۱۱ | ابتدائیہ                |
| ۳۷ | محفلِ میلاد         | ۱۲ | تلاوت پر تبصرہ          |
| ۳۸ | تعارفِ ثناءِ خوان   | ۱۳ | قرآن کیا ہے             |
| ۳۹ | آمدِ سرکارِ دو عالم | ۱۵ | تعارفِ ثناءِ خوان       |
| ۴۱ | عطا آپ دی اے        | ۱۵ | کلمہ شریف، نقابت        |
| ۴۳ | تعارف               | ۱۷ | تعارفِ ثناءِ خوان       |
| ۴۴ | شہرِ مصطفیٰ کا منظر | ۱۷ | ذکرِ خدا اور نعتِ رسول  |
| ۴۶ | علی علی ہے          | ۱۹ | مدینہ کی نعمتیں         |
| ۴۹ | نعرہٴ حیدری         | ۲۲ | تعارفِ ثناءِ خوانِ رسول |
| ۵۵ | قرآن اور رسول       | ۲۵ | تعارفِ ثناءِ خوان       |
| ۵۹ | قبروں پر جانا       | ۲۷ | ذکرِ شہرِ رسول          |
| ۶۲ | ایک نکتہ            | ۲۹ | تعارفِ ثناءِ خوان       |

|     |                             |     |                          |
|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| ۱۲۹ | اہل مدینہ                   | ۶۳  | تعارف                    |
| ۱۳۳ | شانِ مصطفیٰ اور قرآن پاک    | ۶۴  | عروج کی رات              |
| ۱۳۸ | تعارف                       | ۶۸  | الہجاء خواب میں دیدار کی |
| ۱۳۹ | معجزہ مصطفیٰ                | ۷۲  | حسنِ رسول                |
| ۱۴۰ | عقل اور مقامِ رسول          | ۷۳  | عقیدہ                    |
| ۱۴۸ | عطائے مصطفیٰ                | ۷۴  | بے مثل نبی               |
| ۱۵۲ | سرکار کی خوشبو              | ۸۴  | محفلِ نور                |
| ۱۵۴ | موئے مبارک کی زیارت         | ۸۷  | حضور کی آمد              |
| ۱۵۷ | سرکارِ مدینہ کا پسینہ مبارک | ۹۳  | شہر مدینے جاواں میں      |
| ۱۶۱ | چشمِ کرم                    | ۹۹  | محبوب کی بات             |
| ۱۶۸ | وجہِ تخلیق کائنات           | ۱۰۴ | تاجدارِ عالم             |
| ۱۸۷ | وجد کا مقام                 | ۱۰۷ | محفلِ محبوب              |
| ۱۸۸ | جسے دیکھا جائے              | ۱۰۹ | گنبدِ خضریٰ              |
| ۱۹۵ | وسیلہ اور نسبت              | ۱۱۱ | گنبدِ خضریٰ              |
| ۱۹۹ | مے خانہ                     | ۱۱۵ | سنہری جالیاں             |
| ۲۰۸ | وصال کی رات                 | ۱۲۰ | مدینہ کی گلی             |
| ۲۱۴ | حضرت ابو طالب               | ۱۲۵ | طیبہ کی ہوا              |
| ۲۱۵ | ایک خوبصورت رسمہ            | ۱۲۶ | طیبہ کے خار              |

|     |                        |     |                             |
|-----|------------------------|-----|-----------------------------|
| ۳۰۹ | گدایان رسول            | ۲۱۹ | سیدہ زینبؓ                  |
| ۳۱۱ | مختارِ کل              | ۲۲۳ | حضرت سیدنا امام حسینؑ       |
| ۳۱۲ | ایک احسن التجاء        | ۲۲۹ | یزید کا کفر                 |
| ۳۱۳ | دیر رسول کا حسن        | ۲۳۷ | آقا کی بات                  |
| ۳۱۵ | شہد سے بیٹھی باتیں     | ۲۴۰ | سرکار کے صحابہ              |
| ۳۱۷ | شاخوانیء مصطفیٰ        | ۲۵۶ | ہے کعبے دا کعبہ محمد داروضہ |
| ۳۱۸ | نعت حبیبِ خدا          | ۲۴۶ | غیر بیوں کے آقا             |
| ۳۱۹ | نہ وہ خالی نہ یہ خالی  | ۲۴۶ | فقیروں کے والی              |
| ۳۲۱ | میلاد ہر جگہ           | ۲۶۱ | حضورِ اقدس کا سایہ          |
| ۳۲۲ | جان و تن ذکر میں مصروف | ۲۶۹ | معراج نامہ                  |
| ۳۲۳ | محبوب کی گلیاں         | ۲۷۵ | یا در رسول                  |
| ۳۲۵ | عطا کا سمندر           | ۲۸۴ | نعت ہوتی                    |
| ۳۲۷ | نعت گوئی               | ۲۹۴ | نعت بدعت نہیں               |
| ۳۳۰ | میلاد کی رات           | ۲۹۶ | اندازِ قطعاتِ نقابت         |
| ۳۳۳ | اشعارِ نقابت           | ۳۰۲ | صدائے عاشق                  |
| ۳۳۴ | اشک سجائے رکھنا        | ۳۰۳ | شانِ مصطفیٰ                 |
| ۳۳۶ | قرآنی ماہیا            | ۳۰۶ | ضیائے زرخِ رسول             |
| ۳۳۸ | سلام لے نقطہ           | ۳۰۸ | مدینہ میں آنسو              |

# تاثرات

از: آل رسول اولاد حضرت شاہ مقیم پیر طریقت

صاحبزادہ سید محمد عباس علی شاہ صاحب مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم،

کچھ باتیں ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں ایسی ہی ایک یادنا چیز کے سینے میں موجود تھی جو شیخ الحدیث و التفسیر شیخ الاسلام و المسلمین مجدد و محققین حضرت علامہ الحاج پیر طریقت صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تھی۔

آپ کی مارکیٹ میں شائع ہونے والی تمام کتب الحمد للہ میری لائبریری کی زینت بڑھائے ہوئے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے جس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ شیخ الاسلام و المسلمین حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم آل رسول کیلئے جو کام کیا ہے سارے خاندان رسول والے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، ایک دن آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا حضرت صاحب کے صاحبزادگان سے شرف ملاقات حاصل ہوا تو یقین ہوا کہ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت اہل بیت کا سبق اپنے گھر کے بچے بچے کو ازبر کرایا اور

بے شک آپ کا فیض جاری و ساری ہے اور قیامت تک انشاء اللہ العزیز جاری و ساری رہے گا، ناچیز نے اپنے آباؤ اجداد اور اپنے سلسلہ کے حوالہ سے تصوف کی کتاب ”تذکرۃ المرشدین“ لکھی جسے لے کر حضرت صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوا، صاحبزادگان نے جس طرح پذیرائی بخشی اُسے بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہیں۔ انشاء اللہ العزیز وہ کتاب بھی چشتی کتب خانہ سے شائع ہوگی۔

صاحبزادہ محمد توصیف حیدر صاحب سے مجھے اپنی کتاب ”اندازِ نقابت“ کا مسودہ دکھایا اور فرمایا شاہ صاحب! آپ تدرک کے طور پر اس کتاب کی تقریظ لکھ دیں تاکہ برکت ہو جائے، یہ توصیف صاحب کی محبت تھی، لہذا میں نے چند سطوریٰ لکھ دیں، اندازِ نقابت مطالعہ کے ہر شوقین کو ضرور پڑھنی چاہئے یہ کتاب لا جواب ہے جس میں صاحبزادہ محمد توصیف حیدر صاحب نے سو کے قریب موضوعات تحریر فرمائے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اہل محبت، نقیب، خطیب، ادیب، مقرر حضرات میں بہت مقبول ہوگی۔ میری دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس گلشن کو بہاریں عطا فرمائے اور اس گلشن میں کبھی خزاں نہ آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجدد و محققین، شیخ الاسلام و المسلمین حضرت علامہ صائم چشتی صاحب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(آمین)

میدر محمد عہد جہانگشاہ

حجرہ شاہ مقیم لاہور

## ابتدائیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضراتِ گرامی! اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے آقا کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی بگڑی بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔

یہ محفل آقا کے میلاد کی محفل ہے۔

☆ اس محفل میں نور بھی ہے۔

☆ اس محفل میں کیف بھی ہے۔

☆ اس محفل میں سرور بھی ہے۔

☆ اس محفل میں گداز بھی ہے۔

☆ اس محفل میں کمال بھی ہے۔

☆ بلکہ اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔

## محفل کی ابتداء

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محفل ہو اور محفل میں

حاضر ہونے والا در رسول کا سائل ہو، عشقِ رسول میں گھائل ہو میلادِ مصطفیٰ کا

قائل ہو تو نور کی برسات ہوتی ہے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے لبوں پہ سچی نعت ہوتی ہے اور وجہ دفع آفات ہوتی ہے سب سے بڑھ کر محفل میں تشریف فرما آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔

حاضرین محفل اس محفل میں سب سے پہلے دعوت دوں گا تلاوت قرآن سے نعتِ محبوبِ رحمن کے لئے،

یہ قاری قرآن ہے باعثِ فرحان ہے سراپا ذیشان ہے اکمل ایقان ہے اور قراء کے لئے بُرہان ہے سراپا وجدان ہے قاریوں کا سلطان ہے ہمارے ملک کی شان ہے مسلکِ اہل سنت کی آن ہے بلکہ ہمارا مان ہے تران ہے۔

تشریف لاتے ہیں اُستاذ القراء جناب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی

صاحب۔

## تلاوت پر تبصرہ

حضرات گرامی! قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے نور قرآن سے محفل منور تھی فضا معنبر تھی ہوا معطر تھی بلکہ سرور تلاوت قرآن کے وسیلہ سے نور یزدان آشکار تھا، اللہ تعالیٰ جناب قاری صاحب کی عمر میں برکتیں ان کی آواز میں طہارتیں ان کے قول میں صداقتیں ان کے انداز میں شفاقتیں عطا فرمائے۔

# قرآن کیا ہے

حضرات گرامی! قرآن کیا ہے؟

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا!

ذَالِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا!

بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ

جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اُسے اُس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں فرمائی ہے قرآن ہماری ہر موقع پر راہنمائی کرتا ہے اسی لئے سائنس دان کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے۔

عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے۔

منکر کہتے ہیں قرآن میں دعوتِ فکر ہے۔

زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں۔

صوفیاء قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں۔

عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔

متقین کے لئے قرآن ہدایت ہے

عاشق کہتے ہیں قرآن کتابِ عشق ہے۔

طیب کہتے ہیں قرآن علاج ہے۔

حکیم کہتے ہیں قرآن حکمت ہے۔

مومنین نے کہا قرآن ایمان ہے۔

حضرات گرامی! محفل اپنے عروج پر ہے آپ حضرات کا ذوق بھی

قابلِ داد ہے کیونکہ آج سرورِ کائنات کا میلاد ہے ہمارے لبوں پر آقائے

دو عالم سے فریاد و جہاد ہے چنانچہ آپ احباب سے گزارش ہے کہ بارگاہِ

محمدیہ میں بطور ہدیہ درود پاک پیش کریں کہ اس درود کی قبولیت سے آقا کا

اس محفل میں ورو ہو جائے۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُدْنِيِّينَ

حضرات گرامی! ہمارے آقا و مولا تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم ہر عاشق کے درود کو سماعت فرماتے ہیں اگر کوئی بلند آواز سے درود پاک

پڑھتا ہے تو اس آواز کو بھی سنتے ہیں اور اگر کوئی مخض بشریٰ محبت آہستہ آواز

میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سماعت فرماتے ہیں۔

دُور و نزدیک سے سُننے والے وہ کان  
کانِ لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام

## تعارفِ ثناخوان

عزیزانِ گرامی قدر! اب میں محفل میں اُس عظیم ثناخوان رسول کو  
دعوتِ نعتِ دوں گا جن کی آواز میں بلا کا جاوہ ہے یہ نعتِ خوانِ سریلا بھی ہے  
رسیلا بھی ہے اور لباسِ و انداز کے حوالہ سے سجیلا بھی ہے جب یہ دھیمی سروں  
سے کام لیتا ہے تو عشق کے بحرِ عمیق میں غرق ہو جاتا ہے اور جب اونچے  
سروں سے کام لیتا ہے تو لاہوت کے بحرِ نور سے نور حاصل کر کے کلامِ نور سے  
ہمارے دلوں کو نورانیت عطا کرتا ہے تشریف لاتے ہیں ثناخوانِ رسول گدا  
درِ بتول جناب محمد شعیب مدنی صاحب

## کلمہ شریفِ نقابت

حضراتِ گرامی! جنابِ محترم محمد شعیب مدنی صاحب بڑے ہی ترنم  
انداز سے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے پہلے انہوں نے ذکر کلمہ شریف پیش کیا  
اور جس طریقہ سے پیش کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام حاضرین اس ذکر میں  
شامل تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا حسین اور بابرکت ذکر ہے ایسا نورانیت والا  
ذکر ہے ایسا پراثر ذکر ہے کہ جو براہِ راست دل پر اثر کرتا ہے اور دل ہی سے  
نکلتا ہے۔

غم و الم کی دوا      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 ہمارے دل کی صدا      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 خدا کی پاک ثنا      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 دلوں کا نور و ضیا      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 قلندروں کی بقا      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 ملائکہ کی ندا      لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ وہ ذکر ہے جو تمام اذکار میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے ہر نبی کا وظیفہ ہے ہر ولی کا طریقہ یہی ہے تمام مخلوقات خداوندی کا وظیفہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور شعیب مدنی صاحب نے کلمہ پاک اور اس کے ضمن میں جو اشعار پڑھے انہوں نے محفل میں سرور و گداز پیدا کر دیا۔

تمام احبابِ ذوقِ ارباب و قباہر گاہِ نبی الانبیاء میں مل کر دُرودِ پاک کا ہدیہ پیش کریں عزیزانِ گرامی دُرودِ پاک وہ وظیفہ قاطعِ آلام ہے جس سے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں جس سے مصیبتیں رفع ہوتی ہیں جس سے پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے جس سے نور بھی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے بلکہ قُربِ ربِّ غفور بھی ملتا ہے۔

ہر دم پڑھو دُرودِ نبی پر ہر دم پڑھو سلام  
 یہ ہے خاص عبادتِ پیارے یہ نیکی کا کام

## تعارف ثناخوان

حضرات گرامی! اب ایک ایسی آواز پیش کرتا ہوں جو اپنے اندر بے شمار خوبیاں ضم کئے ہوئے ہے بلکہ اگر یہ کہہ دوں تو بجا ہے کہ اس کی آواز میں سحر ہے اس کی آواز میں سوز ہے اس کی آواز میں انداز ہے انداز میں گداز ہے گداز میں فراز ہے اس کی آواز طائران افلاک کی مثل ہے اور بلندی آسمان کے آفاق کی مثل ہے تشریف لاتے ہیں جناب ارسلان مجید صاحب یہ شخص آقا کا ثناخوان ہے خود آقا پر قربان ہے ثناخوان ہونے کے ناطے ذیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محمد ارسلان ہے تشریف لاتے ہیں نوعمر ثناخوان رسول جناب محمد ارسلان مجید صاحب۔

## ذکرِ خدا اور رسول

حاضرین گرامی! ارسلان صاحب نے ذکر کے ساتھ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش کی حقیقت ہے کہ اس میں ڈہرا مزہ تھا ایک ذکر کا اور دوسرا نعت شریف کا بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کے ساتھ نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے علماء اہل سنت کے بھی دو گروہ ہیں ایک گروہ ذکر کے ساتھ نعت پاک پڑھنے کو ناجائز قرار دیتا ہے دوسرا گروہ جائز قرار دیتا ہے ہمارے لئے دونوں گروہ ہی قابلِ قدر ہیں اور ہم علمائے اہل سنت کو اپنے ملک کی شان سمجھتے ہیں۔

عزیزانِ گرامی! وہ ذکر جس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو بگاڑا نہ جائے تو وہ ذکر جائز ہے بلکہ باعثِ جزا ہے کہ سرکار کی نعت بھی ہو رہی ہے اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور کوئی کہے کہ اللہ کا ذکر الگ کرو اور رسول کا ذکر الگ کرو ہم کہتے ہیں ایسے لوگ شعور نہیں رکھتے کیونکہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے ساتھ میں رسول کا ذکر ہے۔

کلمہ دیکھ لیں!

اللہ کا ذکر ساتھ میں رسول کا ذکر۔

نماز میں اللہ کا ذکر ساتھ رسول کا ذکر۔

زمین پر اللہ کا ذکر ساتھ رسول کا ذکر۔

جنت میں اللہ کا ذکر ساتھ رسول کا ذکر۔

نبیوں کی زبان پر اللہ کا ذکر ساتھ میں رسول کا ذکر۔

جہاں جہاں ربِّ کائنات کا ذکر ہے وہاں وہاں محبوبِ ربِّ کائنات

کا ذکر ہے اللہ کا ذکر اس کی حمد ہے رسول کا ذکر اس کی نعت ہے۔

اور جب کوئی مسلمان عاشقِ رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ اُس کے

محبوب کی نعت پاک ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ اُس سے راضی ہو جاتا ہے۔

عزیزانِ گرامی! یہ بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔

یہ کذب نہیں ہے بلکہ صداقت ہے۔

یہ اللہ کا طریق ہے کہ وہ بھی اپنے رسول کو اپنے سے جدا نہیں کرتا

اس لئے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اُس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ  
 وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا نہایت احسن فعل ہے مگر ذکر کر نیوالے  
 حضرات کو یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ اس خُداوندِ قدوس کے ذکرِ مبارک کی  
 ادائیگی میں نام مبارک بگڑنے نہ پائے بلکہ صاف اور سُتھرے انداز میں لیں  
 اور یہ ذکر مبارک سامعین کے کانوں میں رس گھولتا رہے۔

جناب ارسلان صاحب اور ان کے ساتھی جو ذکر میں ساتھ دے  
 رہے تھے بڑے ہی اچھے انداز میں ثنا خوانی کی سعادت حاصل کر رہے تھے  
 اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔

## مدینہ کی نعمتیں

محترم ثنا خوان رسولِ مدینہ طیبہ کا ذکر فرما رہے تھے حضرت علامہ  
 صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ پاک کے تاجدار سے مانگنے کا طریقہ بتاتے  
 ہیں سماعت فرمائیں۔

نورِ خالق کے نور سے مانگو  
 جو ہے لینا حضور سے مانگو  
 ہوش اڑ جاتے ہیں مدینے میں  
 پھر بھی حُسنِ شعور سے مانگو  
 اُن کے روئے کی حاضری مانگو

جب بھی ربِّ غفور سے مانگو  
 آنسو آنکھوں سے خود چھلک جائیں  
 ایسے کیف و سرور سے مانگو  
 جلوے حق کے مدینہ میں صائم  
 نورِ افلاک و طور سے مانگو

عزیزانِ گرامی! مدینہ پاک سے دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں اور  
 آخرت کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اللہ کے تمام خزانوں کو آقائے دو عالم صلی  
 اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں جب عطا کی بات ہوتی ہے تو علامہ صائم  
 چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی عطاؤں کی بات کرتے ہیں لوگوں کو سبق  
 ارشاد فرماتے ہیں کہ

کھلے کا مھول قسمت کا کھلے گا  
 سبھی سکھ چین طیبہ میں ملے گا  
 چلو طیبہ کی جانب بے سہارو  
 مدینے سے صدائیں آرہی ہیں  
 اگر غم کی گھٹائیں چھا گئی ہیں  
 چلے آؤ یہاں پر دلفگارو

عزیزانِ گرامی!

طیبہ پاک میں گدا تو گدا بادشاہ بھی سر جھکا کر آتے ہیں سلطان محمود

غزنوی جب مدینہ طیبہ میں جاتے تو اپنا شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہن لیتے حضرت نور الدین محمود زنگی بادشاہ وقت مدینہ طیبہ میں مال دولت لے کر جاتے اور وہاں لوگوں کو تقسیم کرتے اہل مدینہ سے محبت کرتے وقت کے بادشاہ سلام نیاز پیش کرتے ساری خُدائی ہی دربارِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھکی ہوئی ہے۔

جھکی طیبہ میں ہے ساری خُدائی  
میں ہوں طیبہ کے ذروں کا فدائی  
مجھے کیا روشنی دو گے ستارو

ہری نگاہ کو تارے یہ نور کیا دیں گے  
رو مدینہ کی گردِ سفر کی بات کرو  
میں ہوں طیبہ کے ذروں کا فدائی  
مجھے کیا روشنی دو گے ستارو

فدا عالم کی ہر اک شانِ شَم پر  
فدا صائم کرے گا جانِ شَم پر  
گلستانِ مدینہ کی بہارو

کیونکہ!

گلشن طیبہ دا سارے جہان اندر وکھرے حُسن گداز نکھار والا  
 جنت اوتھوں ای نبی کریم دیندے آوے کوئی وی نبی دے پیار والا  
 عزیزانِ گرامی قدر! نور و سرور میں ڈوبی ہوئی گھڑیاں ہیں رحمتوں  
 کی لگی ہوئی جھڑیاں ہیں نور کی بجی ہوئی لڑیاں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں آقا کی  
 حضوری ہے عاشقانِ عشق و مستی میں ڈوب کر تشریف فرما ہیں اور اب محفل کا  
 رنگ چاہتا ہے کہ یہاں ایک ایسا ثنا خوان پیش کیا جائے جو ہم سب کو آقائے  
 دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک میں گم کر دے لیکن اسے پہلے میں  
 ایک قطعہ پیش کروں گا تاکہ آپ کا شوق بھی مزید ذوق میں بدل جائے۔

## تعارف ثنا خوانِ رسول

عزیزانِ گرامی! شوق میں اور ذوق میں فرق ہوتا ہے شوق وہ ہے  
 جس کی حد ہے جس کا خاتمہ ہے لیکن ذوق کی حد نہیں ہوتی ذوق ختم نہیں ہوتا  
 شوق ختم ہو جاتا ہے ذوق برقرار رہتا ہے ذوق بڑھتا ہے اسی لئے ہمیں شوق  
 نعت نہیں ہے بلکہ ذوق نعت ہے۔ قطعہ ملاحظہ فرمائیں۔

جو شاہِ مدینہ کی نگاہوں میں رہے ہیں  
 صدیق بنے داتا بنے غوث بنے ہیں  
 صائم کو ملا نعت میں جامیٰ کا قرینہ  
 الفاظِ جمعی اشکوں میں آہوں میں ڈھلے ہیں

تشریف لاتے ہیں بلبل گلشنِ مدینہ بے مثل آواز کے مالک بڑے اچھے انداز کے مالک حسین چہرے اور گداز کے مالک جناب محمد وقاص الیاس۔ حضرات گرامی وقاص صاحب بڑے ہی احسن انداز سے نعت شریف پیش کر رہے تھے جس میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی بات تھی۔

## آقا کا صدقہ

عزیزانِ گرامی! ہر ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مل رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”وَاللَّهُ يُعْطِي“ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اِنَّمَا اَنَا قَائِمٌ بَشَكٍّ فِي تَقْسِيمِ كَرْتَا هُوں ہر چیز حضور کا چیز حضور کا صدقہ ہے۔

☆ قرآن ہے تو حضور کا صدقہ

☆ سعادت بنی تو ان کا صدقہ

☆ رمضان ہے تو حضور کا صدقہ

☆ نماز بنی تو ان کا صدقہ

☆ شعبان ہے تو حضور کا صدقہ

☆ روزہ بنا تو ان کا صدقہ

- ☆ صحابہ ہیں تو حضور کا صدقہ
- ☆ حج فرض ہوا تو ان کا صدقہ
- ☆ اہل بیت ہیں تو حضور کا صدقہ
- ☆ ایمان ملا ہے تو ان کا صدقہ
- ☆ کعبہ قبلہ بنا تو ان کا صدقہ
- ☆ پہلے مسجد اقصیٰ کا قبلہ تھا تو ان کا صدقہ
- ☆ نور ملا ہے تو حضور کا صدقہ
- ☆ سرور ملا ہے تو حضور کا صدقہ
- ☆ رحمتیں ملیں تو حضور کا صدقہ
- ☆ زمین بنی ہے تو آقا کا صدقہ
- ☆ آسمان بنے ہیں تو آقا کا صدقہ
- ☆ عرش بنا ہے تو حضور کا صدقہ
- ☆ عالمین بنے ہیں تو حضور کا صدقہ
- ☆ مساجد بنی ہیں تو حضور کا صدقہ
- ☆ نبوت کا درجہ بنا تو حضور کا صدقہ
- ☆ رسالت کا مقام بنا تو حضور کا صدقہ
- ☆ امامت کا مرتبہ بنا تو حضور کا صدقہ
- ☆ صداقت بنی تو ان کا صدقہ عدالت بنی تو ان کا صدقہ طہارت

بنی تو ان کا صدقہ۔ یہ کہہ کر جملہ ختم کرتا ہوں۔

عزیزان گرامی! ہمیں تو خدا بھی ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ورنہ کون جانتا تھا کہ خدا ہے اگر ہے تو کتنے ہیں یہ سب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس لئے ہم کہتے ہیں۔

خُدا کا راستہ تُو نے دکھایا

خُدا سے رابطہ تُو نے کرایا

اور علامہ صائم چشتی لکھتے ہیں!

رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے

حسنِ محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے

## تعارفِ ثناء خوان

عزیزان گرامی قدر۔ اب اُس بارگاہِ اقدس میں حد یہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایسے ثناء خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کی آواز میں ایسی کوالٹی ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔

عزیزان گرامی، اگر سُر سوز گداز۔ بلندی۔ رفعت۔ حُسن خوبصورتی، ادبِ محکم، حُسنِ تلفظ۔ کمالِ ترتیمِ کلام کی خوبصورت سلیکشن اور محفل کے مطابق چلنے کے علاوہ محفل اور اہل محفل کو اپنے ہمراہ کرنے کا فن یہ سب چیزیں اگر

ایک شخصیت میں جمع دیکھنی ہوں تو وہ ہیں جناب حافظ محمد منزل رضا صاحب،  
 عزیزان گرامی قدر! منزل آقائے دو عالم کا لقب ہے اور محترم  
 منزل رضا صاحب کو بھی لقبِ مصطفیٰ کا ایسا صدقہ مل رہا ہے کہ آپ ہر سننے  
 والے کے دل میں اپنا گھر کر لیتے ہیں ان کے نام کے حوالہ سے تعارف عرض  
 کرتا ہوں۔

پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مراتب میں کامل و اکمل ہیں  
 ان پر خاص عطا ہے جو اس محفل میں شامل ہیں۔  
 مدینہ پاک کے تمام محلے ایمان والوں کے لئے ساحل ہیں۔  
 جس نعت خوان کو دعوتِ نعت دینے والا ہوں۔  
 یہ نورِ مصطفیٰ کے قائل ہیں۔

نعتِ رسول کی طرف مائل ہیں۔  
 سوز و گداز کی منزل ہیں۔

نام کے لحاظ سے جناب حافظ منزل ہیں۔  
 ان پر حضور اکرم کی عطا ہے۔  
 لبوں پر مصطفیٰ کریم کی ثنا ہے۔

پورے نام کے لحاظ سے جناب حافظ منزل رضا ہے تشریف لاتے  
 ہیں مدینہ پاک کی بلبل جناب حافظ محمد منزل رضا صاحب۔

## ذکرِ شہرِ رسول

حضرات گرامی! شہرِ مصطفیٰ کی بات ہو تو اس شہر کی ٹھنڈک یاد آ جاتی ہے اور یاد شہرِ مصطفیٰ دل میں سرد آہیں اور آنکھوں میں گرم آنسوؤں کو جنم دیتی ہے حقیقت ہے کہ مدینہ پاک کا نام آتے ہی عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل اُٹھتے ہیں اور اپنے پیارے محبوب اور اپنے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بستی میں جانے کے لئے بے قرار ہو جاتے ہیں تڑپ اُٹھتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم پر کرم فرما دیں ہمیں مدینہ پاک کی حاضری کا اذن عطا فرما دیں۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں یوں فریاد کُناں ہوتے ہیں۔

تیرے سوہنے مدینے توں قربان میں

ہُن تے مینوں مدینے بُلا سوہنیاں

گھدے جاندے نے ساہ دم دا کی اے وساء

مرن توں پہلاں روضہ دکھا سوہنیاں

لاجاں رُکھ لے شہا ہاڑے پاؤن دیاں

آقا ہمارے تڑپنے کو دیکھیں آقا ہمارے اور ہمارے اس رونے کو

اپنی بارگاہِ اقدس میں منظوری عطا فرمائیں۔

لاجاں رکھ لے شہا ہاڑے پاؤن دیاں

رُتاں آیاں نے قسمت جگاؤن دیاں

لے دے چٹھیاں مدینے نون آون دیاں

تیری من دا اے تیرا خدا سوہنیاں

اور پھر عرض کرتے ہیں اور ہر مسلمان کے دل کی ترجمانی اس شعر

میں کرتے ہیں کہ،!

بھاویں مجرم تے بد کار انسان ہاں

لوکی کہندے میں تیرا مدح خوان ہاں

عیب صائم بے لجتے دے نہ ویکھناں

توں این لچپال لکیاں نبھا سوہنیاں

عزیزان گرامی! مدینہ پاک کی بات میں درد و الم بھی ہوتا ہے اور

درد کی دوا بھی ہوتی ہے کہ مدینہ پاک میں اللہ کی رحمتیں ہیں

☆ مدینہ پاک میں برکتیں ہیں۔

☆ مدینہ پاک میں سعادتیں ہیں۔

☆ مدینہ پاک میں نور کی بارش ہے۔

☆ مدینہ پاک میں رحمت کا خزانہ ہے۔

☆ مدینہ پاک میں نجات کا بہانہ ہے۔

☆ مدینہ پاک گنہگاروں کی ٹھکانہ ہے  
 مدینہ پاک کا ذکر ہماری زبان کا ترانہ ہے کہ وہاں آقائے دو عالم  
 تشریف فرما ہیں وہاں حضور مکرم جلوہ گر ہیں وہاں آقا ہیں کہ جن کے صدقہ  
 سے بزم کائنات سجائی گئی۔

## تعارف ثناخوان

تو اب اُس بارگاہِ مقدّسہ میں ہدیہٴ سلام پیش کرتے ہیں ملک کے  
 معروف نعت خوان محترم المقام واجب الاحترام ثناخوان رسول گلشن نعت  
 کے مہکتے ہوئے پھول جناب عبدالجبار قادری صاف آف وزیر آباد حضرات  
 گرامی جناب عبدالجبار صاحب کا تعارف ایک منفرد انداز سے کرانا چاہوں  
 گا۔

☆ ذکر رسول و ظیفۃ اشجار ہے۔

☆ ذکر رسول ادارہ کا سردار ہے

☆ ذکر رسول دلوں کا قرار ہے۔

☆ اور ذاکر رسول عبدالجبار ہے۔

☆ اس کی آواز میں حسن و نکھار ہے۔

☆ یہ شخص سراپا بہار ہے۔

ہم سب کا دلدار ہے نام کے لحاظ سے جناب عبدالجبار ہے اور جس

کو غوث اعظم کی نسبت مل جائے اُس کی اونچی برادری ہے اس کے قلب و ذہن میں محبت آل رسول و رحمہ مادری ہے لہذا اس کا مکمل نام جناب عبدالجبار قادری ہے۔

## بہار کا موسم

ہیں ہمیشہ اشکوں کی بارشیں ہے فضا یہی خنکی بھری ہوئی  
 جو سماں ہے شہر رسول کا، کہیں اور ایسا سماں نہیں  
 میں بنار طیبہ کے چاند پر، میں بنار طیبہ کے حُسن پر  
 یہی وہ بہاروں کا شہر ہے جہاں اک گھڑی بھی خزاں نہیں  
 جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم  
 مگر ہے طیبہ میں ہر دم بہار کا موسم  
 ایک جگہ کہتے ہیں!

فدا صائم کرے گا جان تم پر گلستانِ مدینہ کی بہار و  
 بہار و جانفزار نکلیں نظار و سلامیِ مُصطفیٰ کی سب گزار و  
 یہ صائم کیا زمین و آسماں سب فدا تم پر دینے کی بہار و  
 حضراتِ گرامی!

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم  
 اگر ہم دنیا کے ممالک کی بات کریں۔

اگر ہم مصر کی بات کریں اگر ہم یونان کی بات کریں۔  
اگر ہم ایران کی بات کریں اگر ہم لبنان کی بات کریں۔  
اگر ہم افغانستان کی بات کریں اگر ہم پاکستان کی بات کریں۔  
اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں یا مشرقی ممالک کی بات کریں۔  
یہ بات ظاہر ہے کہ!

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم  
بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں ایک مرتبہ بھی بہار کا موسم نہیں  
آیا اس لئے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ،

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم  
مگر ہے طیبہ میں ہر دم بہار کا موسم  
مدینہ پاک میں بارہ ماہ ہی بہار کا حسین موسم رہتا ہے۔  
عزیزان گرامی! موسم بہار کا اپنا انداز ہے۔  
موسم بہار کا اپنا نکھار ہے۔

موسم بہار تمام موسموں کی جان ہے۔  
موسم بہار عشق والوں کے لئے رنگ داستان ہے۔  
موسم بہار جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔  
اپنے ساتھ رنگ لاتا ہے۔  
اپنے ساتھ یادیں لاتا ہے۔

اپنے ساتھ آنسو بھی لاتا ہے۔

یہ میری آنکھ میں ساون سمیٹ دیتا ہے

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم

بہار کے موسم میں مدینہ کی یاد بڑھ جاتی ہے۔

بہار کے موسم میں عشق رسول کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہے۔

بہار کے موسم میں ہر لمحہ یادِ رسول تبدیل ہوتا ہے۔

بہار کے موسم میں ایک نئی امید اور لگن لگ جاتی ہے۔

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم

عزیزانِ گرامی!

ربیع الاول میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت

باسعادت ہوئی ہے اور ربیع الاول کا معنی ہی پہلی بہار ہے معلوم ہوا ہمارے

آقا کا من پسند موسم بہار کا موسم ہے کہ آقا جس مہینے آتے ہیں تو وہ بہار کا

موسم ہوتا ہے اور جب مدینے آتے ہیں تو وہاں بھی بہار ہی کا موسم رہتا ہے۔

اسی لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم

آقا کی جلوہ گری ہو جائے تو بہار آ جاتی ہے

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آقا کی تشریف آوری کا ذکر

کرتے ہیں۔

وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں  
بہار آئی، باہر آئی، بہار آئی، بہار آئی

کہ!

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم  
عزیزانِ گرامی قدر! جہاں بھی بہار ہے سرکارِ مدینہ علیہ السلام کے

صدقہ سے ہی ہے۔

ہے بہار گلستاں میں ترے دم قدم کے صدقے  
تری رحمتوں کے صدقے یہ جہان پل رہا ہے  
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو بہاریں  
آئیں اور زبان حال سے یہ ندا بلند ہو رہی تھی۔

ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اُجالے نے  
دُنیا نوں وسا چھڈیا میرے کملی والے نے  
ہر چیز آمد رسول پر نکھر گئی بلکہ یوں کہہ لو کہ ہر طرف بہار آ گئی۔  
نکھرا ہوا ہے رُوئے گل پھیلی ہوئی ہے بُوئے گل  
بن کے بہارِ جانفزا میرے حضور آ گئے  
عزیزانِ گرامی! آج بھی آقا کا ذکر کرنے بہار آ جاتی ہے اس لئے  
عاشقِ رسول محافلِ نعت کا انعقاد کرتے ہیں کہ بہار آ جائے۔

☆ ہمارے دلوں میں بہار آ جائے۔

☆ ہمارے مخلوق میں بہارا آجائے۔

☆ ہمارے گھروں میں بہارا آجائے۔

☆ ہمارے ذہنوں میں بہارا آجائے۔

☆ ہمارے شعور میں بہارا آجائے۔

☆ ہمارے شہروں میں بہارا آجائے۔

☆ ہماری گلیوں میں بہارا آجائے۔

☆ آقائے دو عالم کا نام بہار عطا کرتا ہے۔

محمدؐ یا محمدؐ جد پکاراں  
سرے گلشن دے وچہ آون بہاراں

## نظرِ رحمت

حضراتِ گرامی! آقائے دو عالم نورِ مجسم تاجدارِ بطحا کی ذاتِ

اقدس حاجت روا ہے۔

آقا کی ذاتِ مبارک مشکل کشا ہے۔

حضور کی ذاتِ اطہر دافعِ بلا ہے۔

آقائے جس پر بھی نظر عطا فرمائی اُس کے نصیب بدل گئے اس

کے دکھ مٹ گئے اس کے سر کے اوپر چھائی ہوئی ظلمت کا نور ہو گئی اُس کی

شام نورِ علی نور ہو گئی۔

اُس بے چین کو چین مل گیا۔

اُس بے سہارے کو سہارا مل گیا۔

جس پر لطف و کرم ہوا اس کا سویا ہوا بھاگ بیدار ہو گیا۔ قرآن حضور

کی عطا کی بات کرتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

آپ تمام جہانوں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔

آپ تمام جہانوں پر کرم فرمانے والے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے !

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَوْفٌ رَّحِيمٌ .

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی تکالیف دُور فرمانے

والے ہیں آپ مسلمانوں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔

ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں آتا ہے دست سوال دراز کرتا ہے آقا

اُسے عطا فرماتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے یا محمد یہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں

کیا صحابہ نے سنا تو اُسے مارنے کے لئے اجازت طلب کرتے ہیں۔

سرکار فرماتے ہیں ! اسے کچھ نہ کہو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے خلق مبارک کا اس پر اثر ہوا چنانچہ اگلے روز وہ پھر آیا سرکار نے عطا

فرمایا اور وہ اعرابی دعائیں دینے لگا میرے آقا نے اصحاب سے فرمایا ان شخص

کی مثال اس اونٹنی جیسی ہے کہ وہ بھاگ جائے لوگ اسکے پیچھے دوڑیں مگر وہ ہاتھ آنے کی بجائے بھاگتی ہی جائے پھر اس کا مالک لوگوں سے کہے تم میری اونٹنی کے معاملے میں دخل مت دو میں اس کے لئے تم سے زیادہ نرم ہوں پس وہ آگے آتا ہے سبزی دکھا کر اسے پیار سے بلاتا ہے اور وہ اونٹنی لوٹ آتی ہے حتیٰ کہ اپنے مالک کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے اگر میں اس کے ساتھ نرمی نہ کرتا اور تم لوگوں کو چھوڑ دیتا اور تم اسے قتل کر دیتے تو یہ سیدھا جہنم رسید ہو جاتا۔

﴿ کتاب الشفا اول ص ۱۴۰ ﴾

عزیزانِ گرامی! آقا تو ہمارے لئے سراپا رحمت ہیں آپ ہم پر کرم فرمانے والے ہیں گرے ہوؤں کو اٹھانے والے ہیں حضرت سیدی علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں۔

کملی والے میں قرباں تیری شان پر

سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے

ٹھوکر میں کھا کے گرنا برا کام ہے

ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے

ہم قدم پہ قدم گرتے ہیں لیکن عرض کرتے ہیں!

میں گرا جاتا ہوں سرکار اٹھالیں مجھ کو

اور سرکارِ مدینہ کی کرم نوازی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھرے ہوئے  
 غلام کو اٹھا لیتے ہیں عزیزانِ گرامی! جس گھرے ہوئے پہ سرکارِ مدینہ کی کرم  
 نوازی ہو جائے اور وہ اپنے مانگت کو اٹھالیں اُس سے زیادہ خوش بخت کون  
 ہو سکتا ہے۔

حضرت علامہ صائمِ چشتی کہتے ہیں!

میری قسمت حسین کس قدر ہے  
 اُن کو ہر لمحہ میری خبر ہے  
 کھا کے ٹھوکر تھا جب گر گیا میں  
 مجھ کو سرکار آئے اٹھانے  
 ہر قدم پر اٹھانا جرا کام ہے

## محفلِ میلاد

حضرت گرامی! محفل اپنے عروج پر ہے سب کی زبانوں پر صلی  
 علیٰ کی صدائیں گونج رہی ہیں آقا کے میلاد پر خوشی کا سماں ہے ہر طرف ایک  
 پر مسرت کیف چھایا ہوا ہے اہل اسٹیج کا ذوق بھی قابلِ داد ہے جس طرح  
 آپ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعیتیں سن کر خوش ہو رہے ہیں اور ثناء  
 خوانانِ رسول کو نوازر رہے ہیں درحقیقت یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ  
 تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے میں اپنے محبوب کے غلاموں کی نیکیاں بڑھا دوں۔

میں ان کے گناہ مٹا دوں۔

میں ان کی تکالیف دُور کر دوں۔

میں ان کی مصیبتیں رفع کر دوں۔

تو اس نے ہمیں توفیق دے دی کہ اُس کے محبوب کی محفل سجالیں۔

عزیزانِ گرامی قدر! محفلِ نعتِ سبحانا اپنے بس کی بات نہیں بلکہ یہ

وہ عظیم فعل یہ وہ عظیم کام ہے جو خالق کائنات کے امر سے ہوتا ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں

اللہ نُوں سی منظور کہ اُج بخش دیاں میں

سڈیا اے گنہگاراں نُوں محفل دے بہانے

حضور کے میلاد کی محفل ہو۔

شان و رسالت کی محفل ہو۔

عظمتِ مُصطفیٰ کے پرچار کی محفل ہے۔

ذکرِ مُصطفیٰ کی محفل ہو۔

یہ محفل تمام محافل میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔

## تعارفِ ثناخوان

اب اس محفل پاک میں ایک منفرد انداز کا ثناخوان پیش کرتا ہوں

جن کے انداز میں وجاہت ہے۔

☆ جس کی آواز میں ملاحظت ہے۔

☆ جس کے ترنم میں صباحت ہے۔

☆ جس کی آواز کی بلندی میں کرامت ہے۔

☆ جس کے پڑھنے میں صداقت ہے۔

☆ جس کے کلام میں لیاقت ہے۔

نام کے لحاظ سے جناب محمد شفقت ہے تشریف لاتے ہیں مُشفق و

شفیق شخصیت جناب محمد شفقت عباس سہروردی

حضرات گرامی! محفل کا ماحول اب اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ

اب میں بھی آپ کے سامنے حاضری پیش کروں جی تو چاہتا تھا کہ ثنا خوان

شیریں لسان نعتیں پڑھتے رہیں اور ہم سُنتے رہیں لیکن آپ حضرات کا ذوق

اور انتظامیہ کی طرف سے فرمائش مجھے اس بات پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو

گئی کہ میں آپ حضرات کے سامنے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

عظمت کے حوالہ سے چند باتیں کروں۔

## آمدِ سرکارِ دو عالم

میں اپنے کلام کا آغاز حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس

خوبصورت شعر سے کروں گا جب میں شعر مکمل کروں تو آپ حضرات کی بلند

آواز میں سبحان اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔

ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی  
 بن کے موجِ کرمِ مُصطفیٰ آگئے  
 حل ہونے لگیں خود بخود مُشکلیں  
 سارے عالم کے مُشکل کُشا آگئے  
 آمنہ کا مقدر سنوارا گیا  
 گود میں چاند جس کی اُتارا گیا  
 دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی  
 نُور میں ساری کونین ڈھلنے لگی  
 سب یتیموں کینروں کی بگڑی بنی  
 مٹ گئیں ظلمتیں ہو گئی روشنی  
 بن گئی ہے زمیں رشکِ باغِ جناں  
 سج گئے آسماں کھل اُٹھے گلستاں  
 نُور میں ہے زمیں سب نہائی ہوئی  
 اُن کی آمد پہ پرچم کشائی ہوئی  
 مُصطفیٰ کی سلامی کی تقریب میں  
 نعت پڑھتے ہوئے انبیاء آگئے  
 آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے

حضراتِ گرامی! یہ شعر آپ کی نظر ہے اپنے دلوں کو شکلوں بنا کر

رَبِّ کائنات کے حضور پیش کر دو آج آپ کی مُرادیں پوری ہوں گی آج آپ پر اللہ کا کرم ہونے والا ہے اس وقت کو کبھی ہاتھ سے مت جانیں دیں۔

آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے  
سب مُرادیں ملیں ہر مُصیبت ٹلے  
کملی والے کی آمد کا صدقہ ملے  
بھیک لینے کو ہم یا خدا آگئے

## عطا آپ دی اے

حضراتِ گرامی قدر! ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، ہمیں حضور کا صدقہ ہی ملا ہے اور سب سے بڑا صدقہ جو عطا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ثنا خوانِ رسول ہیں۔

☆ ہم آقا کے غلام ہیں، ہمیں فخر ہے۔

☆ ہم حضور کے گدا ہیں، ہمیں فخر ہے۔

☆ ہم مولا کے ماننے والے ہیں

☆ ہم امام الانبیاء کے بڑے ہیں۔

☆ ہم تاجدارِ مدینہ کے نوکر ہیں

☆ ہم سرکار کے چاہنے والے ہیں

☆ ہم محبوبِ خدا کے محبت ہیں

☆ ہم آقا کے دیوانے ہیں اور اسی لئے ہر ہر گھڑی ہمارے لبوں پر

آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاعرہتی ہے۔

کیا کرم ہے ؟

کرم آپ دا اے عطا آپ دی اے

مرے لب تے ہر دم ثنا آپ دی اے

کدوں اوہنوں ایمان دا نور مل دا

جہدے دل دے وچہ نہ وفا آپ دی اے

جو گل اے تساں دی اوہ گل اے خدا دی

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

ایہہ قرآن اک اک ادا آپ دی اے

عمر منگیا تے عمر رب نے ہے دتا

سدا پوری ہندی دُعا آپ دی اے

نظر وچہ خدا دی اوہ رہندا اے ساجد

جہدے تے وی نظر عطا آپ دی اے

حضور کے چشمِ کرم سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں دکھ ختم ہوتے

ہیں دُور غم ہوتے ہیں عطا گنج ہوتے ہیں معدوم رنج ہوتے ہیں اُن کی عطا

سے ہی بات بنتی ہے۔

اُن کے کرم کی بات ہے اُن کی عطا کی بات  
 کوہِ اُحد سے پوچھ لو اُن کی وفا کی بات  
 سب مٹ گئے تھے رنج و مَحْن گئے دُور دُور غم  
 جب بھی چلی تھی دوستو اُن کی سخا کی بات

﴿حیدر﴾

## تعارف

اب میں ملک پاکستان کے معروف نعت گو شاعر جانشین مفسر قرآن  
 جگر گوشہ محقق دوراں نائب غزالی زماں نُورِ نظر را زئی دوراں حضرت  
 صاحبزادہ محمد شفیق مجاہدِ چشتی صاحب مدظلہ کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام  
 بلاغت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں ان کا تعارف ان ٹوٹے پھوٹے  
 الفاظ میں کروانا چاہوں گا۔

کہ آپ سراپا کیف و سرور ہیں،

☆ آپ نُورِ علی نور ہیں۔

☆ آپ کے کلام میں چاشنی بھی ہے صداقت بھی،

☆ آپ کے کلام میں گداز بھی ہے محبت بھی،

☆ آپ کے کلام میں محبت رسول کی چاشنی ہے۔

☆ آپ کے کلام میں دشمنانِ رسول پر غضب بھی ہے۔

☆ آپ کے کلام میں آلِ رسول کی کی مودۃ بھی ہے۔

☆ آپ کے کلام میں صحابہ کرام کی منقبت بھی ہے۔

☆ آپ کا کلام نُور میں ڈوب کر لکھا گیا اور جب آپ اپنے

خوبصورت چہرہ مبارک سے کلام ادا فرماتے ہیں تو سامعین آپ کے پڑھنے

کے سحر میں کھو جاتے ہیں تو میں دعوت کلام دوں گا۔

شاعر اہل سنت! صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد شفیق

مجاہدِ چشتی مدظلہ العالی کو کہ تشریف لائیں اور ہماری سماعتوں اور قلوب کو نعتِ

رسول سے مستفید فرمائیں۔

حضرات گرامی صاحبزادہ محمد شفیق مجاہدِ چشتی صاحب بڑے ہی احسن

انداز سے اپنے کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے کلام میں آپ نے مدینہ

طیبہ کی حاضری کی چاہت کا ذکر فرمایا تو میں آپ کے ہی موضوع کو آگے

بڑھاتا ہوا حضرت صاحبزادہ محمد لطیف ساجدِ چشتی صاحب مدظلہ العالی کے

لکھے ہوئے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

سب حضرات بلند آواز سے کہ دیں سبحان اللہ،

## شہرِ مصطفیٰ کا منظر

کاش شہرِ مصطفیٰ کا ہم بھی منظر دیکھتے

روضہ سرکارِ دو عالم کو جا کر دیکھتے

جو لوگ مدینہ طیبہ کی حاضری چاہتے ہیں وہ بلند آواز سے سبحان اللہ

کہہ دیں۔

سامنے ہوتیں سُہری جالیاں اور اُن کے پار  
بند آنکھوں سے حسین منظر برابر دیکھتے

سبز گنبد کے حسین سائے میں ہم پڑھتے سلام  
ابرِ رحمت ہم برستا اپنے دل پر دیکھتے

محویت میں ڈوب جاتے اور صدیوں سے پرے  
اُستینِ حنّانہ سے ہم بھی لپٹ کر دیکھتے

بدر کے میدان کا اک۔ ایک ذرہ چومتے  
خاک میں پوشیدہ جو ہیں ماہ و اختر دیکھتے

پیش کرتے اپنے اٹھکوں سے سلامی آپ کو  
ساجد اپنے شاہ کا ہم اس طرح دُر دیکھتے

ماشاء اللہ کیسا خوبصورت کلام ہے جس کا ایک ایک شعر ہمارے

دلوں میں اتر گیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی آواز کے

مالک ثناخوانِ رسول کو پیش کرتا ہوں۔

## علی علی ہے

حضرات گرامی! محترم ثناخوانِ رسول نعت شریف پیش کر رہے تھے آخر میں انہوں نے مولائے کائنات شیرِ خدا اسد اللہ الغالب امام المشرق والمغرب وصی رسول زوجِ بتول خلیفہ رسول امام اول حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کی منقبت پیش کی۔

عزیزانِ گرامی! صحابہ کرام کے نزدیک سب سے افضل شخصیت حضرت مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ وجہہ ہیں جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ رہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مولائے کائنات کو مبارکباد دی اور مولائے کائنات کی اس فضیلت کو خوش دلی سے قبول فرمایا۔

یہ سب اس لئے تھا کہ سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا تھا آپ خاتم النبیین تھے لیکن سلسلہ امامت و ولایت مولا علی شیرِ خدا سے چلا چارو روحانی سلاسل نقشبند یہ قادر یہ سہروردیہ اور چشتیہ میں مولائے کائنات کا فیض رواں دواں ہے اس لئے تمام اولیائے کرام علی علی کا ورد کرتے رہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

علی علی کر دے لکھاں ولی ہو گئے

ولیاں ساریاں دا پیشوا حیدر

چمن چمن کلی کلی

علی علی علی علی

علی امامِ دو جہاں، علی جہاں کا پاسباں

علی وفا، علی کرم، علی حرم کا ہے حرم

علی نشانِ مُصطفیٰ، علی ہے جانِ مُصطفیٰ

علی امامِ اولیاء، علی صدائے ہر ولی

علی علی علی علی

علی بہارِ گلستاں، علی وقارِ انس و جاں

علی ہے نورِ انجمن، علی ہے فخرِ پنجتنؑ

علی پناہِ بیسیاں، علی نبی کا ترجمان

پھرو گئے تم جہاں جہاں، علی علی وہاں وہاں

علی نہاں علی عیاں، علی خفی علی جلی

علی علی علی علی

علی نبی کی شان ہے، علی نبی کی آن ہے

علی رسول کا نفس، علی نبی کی جان ہے

علی فرازِ عشق ہے، علی نمازِ عشق ہے

علی کا نام پاک ہی، نوائے سازِ عشق ہے  
 علی کی دُھوم دھام ہے، مگر مگر گلی گلی  
 علی علی علی علی

علی شکوہِ رزم ہے، علی ثباتِ عزم ہے  
 علی کے علم سے سچی، یہ معرفت کی بزم ہے  
 علی کتابِ علم ہے علی ہی بابِ علم ہے  
 جہاں ہے کشتِ آرزو، علی سحابِ علم ہے  
 علی کی بات بات ہے سرور میں ڈھلی ڈھلی  
 چمن چمن کلی کلی  
 علی علی علی علی

اس لئے ہم کہتے ہیں!

علی اے دکھیاں وا غم خوار  
 علی اے دکھیاں وا غم خوار  
 ہر مشکل توں بچ جاویں گا  
 علی وا نعرہ مار! نعرہ حیدری  
 علی اے ہر اکِ دل دے اندر  
 علی علی سب کہن قلندر

پاک نبی دا ویرِ علی اے  
 سب ولیاں دا پیرِ علی اے  
 علی نوں نبی نے آکھیا بھائی  
 تن سو آیت شان چہ آئی  
 فیض خزانے وٹ دے حیدر  
 کفر شرک نوں چھنڈ دے حیدر  
 سوہنا رنگ اے رنگِ علی دا  
 منگ خدا توں سنگِ علی دا  
 علی علی اے ہر دم کہناں  
 ساجدِ غم میں کوئی رہناں  
 کیونکہ!

ہر غم توں مینوں میرا مو لا علی بچاؤندا  
 میرا وظیفہ ہر دم اڈرگئی یا علی اے

## نعرۂ حیدری

عزیزانِ گرامی! غیر کی بات میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔

غیراں کولوں بچ دا جا  
 نامِ علی دا ورد پکا

سامنے منکر ہے آجاوے  
 نعرہ حیدری جوش تمہیں لا  
 مرضاں ساریاں مک جاسن  
 حیدری لنگر بیلیا کھا  
 دیکھنی شان علی دی ہے  
 پاک قرآن نوں کھول ذرا

مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن پاک میں تین سو سے زائد آیات  
 حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئیں ہیں اور حضرت  
 مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت فرائض اسلام میں سے ہیں۔  
 اس لئے ہر سچا مسلمان مولا علی کا نام سن کر خوش ہوتا ہے منافق کو  
 آپ کرم اللہ وجہہ کے نام اقدس سے عداوت ہوتی ہے اور جب اُس کے  
 سامنے نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے وہ وہ حسد کی وجہ سے جلتا ہے اور علی کا نام سن  
 کر جلنا منافقوں کی نشانی ہے اس لئے بلند آواز سے نعرہ لگائیں تاکہ ثبوت  
 ہو جائے کہ اس محفل میں سب ہی ایمان والے بیٹھے ہیں۔

## نعرہ حیدری

جب ۶۵ کی جنگ ہوئی تو ہندو فوج یہ کہتی تھی کہ مسلمان جب نعرہ  
 حیدری لگاتے ہیں تو کہم اتنی پریشانی فائرنگ سے نہیں ہوتی جتنی نعرہ حیدری

سے ہوتی ہے اور ہم پسپا ہو جاتے ہیں اس لئے ہندوؤں کا فروں کو پریشان کر  
دیں منافقین کو پریشان کر دیں بلند آواز سے جواب دیں۔

## نعرۂ حیدری

ہیں تاجدار مل اتنی مشکل کشا علی  
ہیں مصطفیٰ کے دل رُبا مشکل کشا علی  
کہتے ہیں سارے اولیاء ہر دم علی علی  
اعظم بھی ہیں علی علی اقدم علی علی  
ہر اک زباں پہ ہے سدا جاری علی علی  
ہیں بخشے ولایتیں ساری علی علی  
نورِ خدا کے نور کا جلوہ علی علی  
سلطانِ انبیاء کا ہیں نقشہ علی علی  
شاہِ ولایت فاتحِ خیبر علی علی  
نورِ خدا کا عکسِ منور علی علی  
مقصودِ دو جہان ہیں مولا علی علی  
ہر اک ولی کے افسر و آقا علی علی

## نعرۂ حیدری

کئے جا کئے جا محبت علی سے

ہے مومن کی پہچان اُلفت علی سے  
نبوت کے ساجد تو خاتم نبی ہیں  
چلا سلسلہء امامت علی سے

## نعرہ حیدری

ہر مشکل توں بچ جاویں گا نعرۂ حیدری مار

## نعرۂ حیدری

حضرات گرامی! تاجدارِ اہل اقی مُرتضیٰ شیرِ خدا مُشکل کشا حضرت علی  
کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان و عظمت اور اختیار عطا  
فرمایا ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کی مشکلات حل فرماتے ہیں۔  
آج بھی آپ کا نام لینے والے آپ کے نام کے صدقہ سے  
مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔  
عزیزانِ گرامی! جو لوگ مصائب سے نجات حاصل کرنا چاہتے  
ہیں وہ میرے ساتھ یک زبان ہو کر اس نعرے کا جواب دیں۔

## نعرۂ حیدری

حضرات گرامی! حضرت مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر  
ایمان والوں کو ہی کرنا نصیب ہوتا ہے اور ایمان والے ہی ذکرِ علی سن کر خوش

ہوتے ہیں۔

اب دیکھتے ہیں کون ایمان والا ہے۔

## نعرہ حیدری

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ”اَلَّذِ شُكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ“ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے آئیں سب عبادت میں شامل ہو جائیں۔

## نعرہ حیدری

حضرت مولا علی مومنین کے مولا ہیں مومنین کے آقا ہیں مومنین کے دوست ہیں مومنین کے مددگار ہیں اپنے آقا سے استعانت حاصل کرنے کے لئے بلند آواز سے جواب دیں۔

## نعرہ حیدری

ساجد علی حضور داہین جلوہ ایہہ پیغام دیندا گھر و گھری جاویں  
ملد انبی و انبیض ای علی کولوں سرنوں علی دے قدماں تے دھری جاویں  
معنی علی دا اعلیٰ علی سجناں ورو علی دے نام دا کری جاویں  
منکر سر دا اے علی دا نام من کے نام علی لے کے سجناں ٹھری جاویں

## نعرہ حیدری

نعرہ ہے دم دم حیدری  
 ہم حیدری ہم حیدری  
 نعرہ ہمارا یا علیؑ  
 ہاتھوں میں پرچم حیدری

## نعرہ حیدری

علی وا نام کمزوراں دا صائم زور بن جاندا  
 علی دے نام تھیں جنگاں دا نقشہ ہو ر بن جاندا

## نعرہ حیدری

روٹی منگے فقیر جے علی کولوں علی اٹھاں دی اوہنوں قطار دیندا  
 صدقہ علی تہاں منگے جو رت کولوں اللہ اوس دے کم سنوار دیندا  
 اجمل توڑ دا اے سنگل قیدیاں دے علی ڈبیاں بیڑیاں تار دیندا  
 بدل جان طوفاناں دے رخ فوراً نعرہ حیدری جدوں کوئی مار دیندا

## نعرہ حیدری

عاشق سدا علی دے ناں نوں چم اکھیاں تے لاوے  
 نعرہ حیدری مار کے ہر اک مشکل حل ہو جاوے

## نعرہ حیدری

غریباں وا سہارا کون ؟ حیدر  
 اِمامت وا ستارا کون ؟ حیدر  
 ہے دتیا رشتہ زہرا نے صائم  
 مُحَمَّد وا پیارا کون حیدر

علی شاہِ مردان اماماً کبیرا  
 کہ بعد از نبی شد بشیراً نذیرا

## قرآن اور رسول

حضرات گرامی ! آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ معراج شریف  
 انعقاد پذیر ہے اس محفل میں ملک پاکستان کے معروف ثناخوانان رسول صلی  
 اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو اپنے اپنے وقت میں حاضری لگوائیں گے آخر  
 پر خطاب مقرر ذیشان خطیب نکتہ دان جناب مولانا محمد ملازم حسین ڈوگر  
 صاحب مدظلہ العالی کا ہوگا۔

حضرات گرامی ! قرآن عظیم ہے اور جس ہستی پر یہ نازل ہوا تو وہ  
 بھی عظیم ہیں۔

☆ قرآن کتاب نور ہے حضور من اللہ نور ہیں۔

☆ قرآن ہدایت ہے حضور ہادی ہیں۔

☆ قرآنِ رحمۃ اللعالمین ہے حضورِ رحمۃ اللعالمین ہیں،

قرآن کی طرف دیکھنا ثوابِ ضرور ہے لیکن جنت کی گارنٹی نہیں مگر حضور جسے چاہیں جنت عطا فرما سکتے ہیں بعض لوگ قرآن پاک کو حضور علیہ السلام سے افضل کہتے ہیں میں کہتا غور کرو قرآن میں مشابہات ہیں حضور کے جسمِ اطہر کا سایا ہی نہیں ہے اور ان مقابلہ کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ قرآن حضور کا محتاج ہے حضور قرآن کے محتاج نہیں ہیں حضور علیہ السلام اس لئے پشیمان نہیں ہوئے تھے کہ وحی نہیں آرہی بلکہ اس لئے پشیمان تھے کہ یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں کہ حضور نہیں چاہتے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔

قرآن حضور سے افضل کیسے ہو سکتا ہے مُسلمان قرآن کو پوچھا نہیں کرتے بلکہ آگے رکھتے ہیں کہ قرآن پاک پیچھے نہ ہو۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے کہ جدھر حضور جاتے ہیں قرآن پیچھے پیچھے آ رہا ہے، حضور مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں حضور کے پیچھے۔

☆ حضور پہاڑ پر ہیں تو قرآن پہاڑ پر آ رہا ہے۔

☆ حضور غار میں ہیں تو قرآن غار میں آ رہا ہے۔

☆ حضور گھر میں ہیں تو قرآن گھر میں آ رہا ہے،

☆ حضور باہر ہیں تو قرآن باہر آ رہا ہے۔

☆ حضور گلی میں ہیں تو قرآن گلی میں آ رہا ہے۔

☆ حضور مسجد میں ہیں تو قرآن مسجد میں آ رہا ہے۔

- ☆ حضور چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔
  - ☆ حضور بیٹھے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔
  - ☆ حضور قیام فرماتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔
  - ☆ حضور جاگتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔
  - ☆ حضور سیر اقدس پر تیل لگاتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔
  - ☆ حضور زلفوں کو سنوارتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔
  - ☆ حضور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔
- مسلمان وہ ہے جو قرآن کے پیچھے ہے اور قرآن وہ ہے جو محبوب  
رحمان کے پیچھے ہے۔

محبوب کے فعل سے اے حیدر

قرآن کی آیت بنتی ہے

اور یہ بھی حقیقت ہے !

آیات قرآن کو جمع کریں تو محبوب کی نعتیں بنتی ہیں۔ اور اگر زبان

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے سنیں تو آپ فرماتے ہیں !

یا مُحَمَّدُ مُحَمَّدٌ مِیْنِ کَہْتَا رَہَا

نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی

آیتوں سے بلاتا رہا آیتیں

پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی

تو نعتِ محبوبِ رحمان بشکلِ آیاتِ قرآن پیش کرنے کیلئے میں دعوت دیتا ہوں ملکِ پاکستان کے معروف قاری جناب قاری الحافظ محمد اکرام چشتی نقشبندی صاحب کو، قبلہ قاری صاحب آل پاکستان مقابلہ حُسنِ قرأت میں اول پوزیشن حاصل کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی کشش رکھی ہے کہ سامعین ان کی آواز کی دلکشی کے صحرا میں گم ہو جاتے ہیں۔

تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام جناب الحافظ وقاری محمد اکرام چشتی صاحب۔

حضراتِ گرامی ! حافظ القاری محمد اکرام صاحب تلاوتِ قرآن یہ سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے ان کی زبان سے ادا ہونے والی آیات ہمیں مسجدِ حرام کے مناظر سے لے کر مسجدِ اقصیٰ کے پر نور علاقے کا حال تصور پیش کر رہے تھے۔

سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات جو قبلہ حافظ صاحب نے پڑھیں ان میں معراجِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اگر ان ابتدائی آیات کے بارے میں گفتگو کی جائے تو بہت سے لطیف نکات ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن یہاں میں صرف ایک نکتہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں،

اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ شانہ ارشاد فرماتا ہے !

بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا .

وہ مسجدِ اقصیٰ کہ جس کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ شانہ نے

برکتیں رکھی ہیں۔

## قبروں پر جانا

حضرات گرامی ! مسجد میں تو برکتیں ہوتی ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کعبہ سیر کرائی مسجد اقصیٰ تک جس میں برکتیں ہیں۔

بلکہ فرمایا ! مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی، مفہم ترین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارد گرد برکتوں کا ذکر اس لئے فرمایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ معلوم ہوا جہاں اللہ والوں کی قبریں ہوں وہاں برکتیں ہوتی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر جانے سے شرک ہو جاتا ہے، اگر وہ حقیقت کی طرف توجہ دیں تو کبھی ایسی بات نہ کریں، قبروں پر جانا شرک نہیں ہے اگر قبروں پر جانا شرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ ارشاد فرماتے کہ قبرستان جایا کرو۔ آپ کا قبرستان جانے کا فرما دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں پر جانا شرک نہیں بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

قبر کی دو صورتیں ہیں۔

☆ ایک ایمان والے کی قبر ہے۔

دوسری بے ایمان کی قبر ہے۔

☆ ایمان والے کی قبر میں اللہ کا نور آتا ہے۔

بے ایمان کی قبر میں عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔

☆ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔

بے ایمان کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔

☆ مومن کی قبر پر برکتیں ہوتی ہیں۔

بے ایمان کی قبر پر نحوستیں ہوتی ہیں۔

☆ مومن کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا

ہے۔

حضرات گرامی ! ایک مرتبہ ابلیس لعین حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے پاس آیا اور کہنے لگا !

آپ کلیم اللہ ہیں۔

آپ اللہ کے نبی ہیں۔

آپ اللہ کے رسول ہیں۔

آپ اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ اللہ کے بارگاہ میں التجاء کریں کہ

وہ مجھے معاف فرمادے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاء کی کہ الہی !

ابلیس اپنے کیے پر نادم ہے تو اسے معاف کر دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ! اے موسیٰ میں نے اسے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ

کر و اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تمہارے کہنے پر میں اسے معاف کرتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ آدم کی قبر پر چلا جائے اور سجدہ کرے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا ! تجھے خوشخبری ہو کہ تجھے معافی مل گئی تو چل آدم علیہ السلام کی قبر پر اور اللہ کے فرمان کے مطابق قبر پر سجدہ کر دے اللہ تجھے معاف فرمادے گا۔

ابلیس شیطان نے کہا ! میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو کیا اب مُردہ کو سجدہ کروں گا ؟ مجھے معافی نہیں چاہیے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابلیس کی اس بات پر جلال آیا اس سے پہلے کہ آپ ابلیس پر عتاب لاتے وہ بھاگ گیا۔

عزیزانِ گرامی ! اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، شریعتِ محمدی میں غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی تعظیم و تکریم کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے تو ان گذارشات کے ساتھ ہی میں اس محفل پاک میں شامل ثناء خوانِ رسول میں سے پہلے ثنا خوان کو پیش کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں جناب حافظِ اظہر حسین اعوان صاحب۔

حضراتِ گرامی ! محترم ثناء خوانِ رسول نہایت احسن و اجمل انداز میں اور اپنی مترنم آواز میں نعتِ رسول بکھنور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔

ان کے نعت پڑھنے کے انداز میں ہم سب ایسے مگن ہوئے کہ یہ خبر

ہی نہ رہی کہ وقت کتنا بیت چکا ہے اور میرا خیال ہے یہ بھی معراج پاک کی  
 اس رات کا اعجاز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف  
 لے گئے تو وقت روک دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اٹھارہ سال تک نظام  
 کائنات ساکن رہا اور جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام واپس تشریف لائے تو  
 دوبارہ یہ نظام کائنات کا سلسلہ چلا۔

## ایک نکتہ

اس میں ایک نہایت خوبصورت نکتہ یہ بھی ہے کہ اٹھارہ سال کے  
 عرصہ تک انسان سوئے رہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اٹھارہ  
 سال کیلئے بند ہوگئی اور اٹھارہ سال کوئی شخص فوت نہ ہوا، نہ کسی کو کھانے کی  
 حاجت ہوئی۔

ارے جس نبی کے صدقہ سے اٹھارہ سال کسی کو موت نہیں آئی، اُس  
 نبی پر موت کیسے آسکتی ہے؟  
 ہرگز نہیں حضور زندہ ہیں حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ  
 فرماتے ہیں!

میرے محبوب زندہ نبی ہیں بلکہ ہر چیز کی زندگی ہیں  
 اُنکے ذاکر کو کیا موت آئے ذکر جب اُن کا فانی نہیں ہے

## تعارف

تو اس زندہ محبوب کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں ثناء خوان حبیب الرحمن، عظیم ثناء خوان سراپا ذوق و وجدان جناب صاحبزادہ محمد فیضان چشتی صاحب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں تحت اللفظ ہدیہ عقیدت پیش کریں۔

جناب فیضان صاحب میخانے کی بات کر رہے تھے تو میں بھی میخانے کے حوالہ سے رباعی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

طیبہ پاک میخانہ اے عاشقاں وا  
 ایس جگہ تے ہوش گوائی وا نہیں  
 جیہوا سبق قرآن نے دس دتا  
 اوس سبق نوں کدے بھلائی وا نہیں  
 ایتموں نے پی کے چپ چاپ ریئے  
 کسے تائیں ایہہ نشہ وکھائی وا نہیں  
 حیدر کدی نہیں غیر توں طلب رکھی  
 کسے ہور میخانے چہ جائی وا نہیں

تو تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام جناب محترم محمد فیصل چشتی صاحب اور بحضور سید المرسلین نعت پاک پیش کرتے ہیں۔

## حضرات گرامی !

درودِ دل نے پڑھا تھا زبان سے پہلے  
 اذانِ رُوح میں گونجی تھی کان سے پہلے  
 ہر اک رسول نے کی آخری رسول کی بات  
 سنی ہے چاپ قدم کے نشان سے پہلے

اور معراج کی بات شاعریوں کرتا ہے کہ !

نہ ایسا مہمان دیکھا کوئی کہ میزباں جس کا خود خدا ہے  
 گیا جو عرشِ علی سے آگے وہ مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے  
 مری جو آنکھیں چھلک رہی ہیں کرم فریدی پہ یہ تیرا  
 میں کب تھا تیری ثناء کے قابل یہ خاص نعمت جری عطا ہے

تو معراج کے دولہا کے حضور ہدیہ سلام و عقیدت پیش کرتے ہیں

واجب الاحترام جناب مرزا محمد شفیق الرحمن صاحب،

## عروج کی رات

جب مدینے کی بات ہوتی ہے  
 رقص میں کائنات ہوتی ہے  
 اُن کی رحمت سے دن لگتا ہے  
 اُن کے صدقے میں رات ہوتی ہے

تمام راتیں انہیں کے صدقہ سے بنی ہیں اور شبِ معراج اُن راتوں میں خاص ہے کہ اس رات سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے فلسطین تشریف لے گئے پھر آسمان پر گئے۔

☆ پہلے آسمان سے بھی اُوپر

☆ دوسرے آسمان سے بھی اُوپر

☆ تیسرے آسمان سے بھی اُوپر

☆ چوتھے آسمان سے بھی اُوپر

☆ پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سے بھی اُوپر

☆ جنت الماویٰ سے اُوپر

☆ جنت النعیم سے اُوپر

☆ تمام جنتوں سے اُوپر

☆ عالم ملکوت سے اُوپر

☆ عالم جبروت سے اُوپر

☆ سدرۃ المنتہیٰ سے اُوپر بلکہ عرشِ علی سے بھی اُوپر

☆ مقامِ دنیٰ کی منزلیں طے فرماتے ہوئے قتلیٰ سے ہوتے

ہوئے قَابِ قَوْسین بلکہ اودنیٰ تک جا پہنچے۔

جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسر ہونے کا دعویٰ

کرتے ہیں ذرا غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہاں محبوبِ خدا صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور بلندی اور کہاں ایک عام انسان کی اوقات۔

حاضرین محترم ! ہمارے آقا و مولیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نور خدا سے بنی ہے جیسی تو آپ وہاں گئے جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں جاسکتے۔

حضرات گرامی ! جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتو! آج دوزخ کے دروازے بند کر دو، آسمانوں کو سجاد و اور کتبے لکھ دو۔ پہلے آسمان پر نور کا کتبہ لکھا گیا جس پر لکھا تھا۔

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

دوسرے آسمان پر کتبہ لکھا گیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

تیسرے آسمان پر کتبے پر لکھا گیا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ

رَسُولًا

چوتھے آسمان پر کتبہ لکھا گیا

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

پانچویں آسمان پر لکھا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا

وَنَذِيرًا

چمٹے آسمان پر کتبہ لکھا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ.

ساتویں آسمان پر کتبہ لکھا گیا۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَةً مِنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ.

حضرات گرامی! اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے معراج پر جشن کا

اہتمام فرما رہا ہے۔

فرصت دیاں گھڑیاں مکیاں سوہنے نے باہواں چکیاں

جو قوساں دونویں جھکیاں او اڈنی پین پکاراں

ماذاغ دا ٹرمہ پا کے جد یار کھلوتا جا کے

کہیا حق نے پروے چا کے چن لٹ سے موج بہاراں

رت کھولیا نور خزانناں گھریار نے پھیرا پاناں

اس راتیں بخشے جاناں صائم جھے او گنہاراں

☆ فرشتوں کو خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں۔

☆ فرشتوں کا خاص نص حاصل ہو رہے ہیں۔

☆ فرشتوں کو مزید خلعتوں سے نوازا جا رہا ہے۔

☆ فرشتوں کے لئے عید کی رات بنی ہوئی ہے۔

☆ خوریں سجاوٹیں کر رہی ہیں۔

☆ خور عین بناؤ سنگار کر رہی ہیں۔

☆ جنت کے بام و در خاص طور پر سجائے جا چکے ہیں کہ جنت کا

مالک جنت کی سیر کرنے کے لئے تشریف لا رہا ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی اشعار میں بیان فرماتے ہیں۔

دو جگ گوں خوشیاں چڑھیاں آیاں نے طن دیاں گھڑیاں

رحمت نے لائیاں جھڑیاں سب مہک پیاں گلزاراں

جد ٹرے حبیب پیارے را ہواں وچہ وچہ گئے تارے

آ نبی کھلوتے سارے وچہ راہ دے بنھ قطاراں

## التجا خواب میں دیدار کی

اللہ سوہنیاں خواب وکھا مینوں سوہنے نبی دارخ انوار تکناں

حضرات گرامی! جس آنکھ کو دیدارِ مصطفیٰ ہو جائے وہ آنکھ بڑی

قسمت والی ہوتی ہے جو آنکھ دیدارِ مصطفیٰ کرے اُس آنکھ سی آنکھ کس کی ہو سکتی

ہے۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کے مقدر پر قربان

جائیں کہ انہوں نے بہتر مرتبہ بیداری کے عالم میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کی زیارت کی ہے۔

منزل عشق دی دیندی کمال حیدر  
منکر کدے ملکوتی نہیں ہو سکا

جہاں جا گدیاں سوہنے دی دید کیتی  
ہر کوئی امام سیوطی نہیں ہو سکا  
لیکن امام بوسیری کو بھی یہ مقام ملا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم نے خواب میں تشریف لا کر آپ کو شفا بھی عطا فرمائی اور چادر مبارک بھی  
عطا فرمادی اس لئے ہم بھی عرض کرتے ہیں۔

اللہ سوہنیاں خواب دکھا مینوں تیرے نبی وارخ انوار تکناں  
میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری مدت داعلی شہکار تکناں  
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسَيْرِي فِي الْيَقْضَا.

جس نے اپنے خواب میں میری زیارت کی بیشک اُس نے میری  
زیارت کی شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اور فرمایا !

من رانی فقد راء الحق

جس نے مجھے دیکھا تحقیق اُس نے حق دیکھا۔

اس لئے ہم التجائیں کرتے ہیں۔

کبھی تو خواب میں آجائیں یا رسول اللہ  
میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کیلئے  
عزیزانِ گرامی! اگر خواب میں سرکارِ مدینہ تشریف لائیں تو پھر  
بیدار ہونے کی خواہش کون کرے گا۔

آپ کی خواب میں جلوہ گری کے بعد علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ  
لکھتے ہیں۔

خواب میں آئے ہیں وہ یارب نہ جاگوں عمر بھر  
خواب سے بڑھ کر حسین مطلب نہیں تعبیر کا  
بیشک تعبیر بھی اچھی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے  
جائے گا لیکن خواب میں تو خود آقائے کون و مکاں جلوہ گر ہیں اس کا خواب کا  
مرتبہ تعبیر سے اچھا ہے۔

خواب سے بڑھ کر حسین مطلب نہیں تعبیر کا  
عزیزانِ گرامی قدر!

سب بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔

میری دعا ہے جو سب سے بلند سبحان اللہ کہے اُسے سرکارِ مدینہ صلی  
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ ﴿سبحان اللہ﴾  
ہم سب کی خواہش ہے کہ حضور اپنا رخ پر انوار ہمیں دکھائیں کہ  
جس مقدس چہرہ اطہر کے صدقہ سے یوسف علیہ السلام کو حسن ملا اور ہم التجا

کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،

جے اُنج دیدار کروناں نہیں جے مکھ توں پردہ چوٹاں نہیں  
 وچہ خواب دے آجا پل دی پل ایٹاں تے کرم فرماوندا جا  
 عزیزان گرامی! کہاں حضور اقدس کی ذات بابرکات اور کہاں ہم  
 گنہگاروں کی آنکھیں دیدار کی بات کرتے ہوئے بھی شرم میں ڈوبے ہوئے  
 ہیں۔

گرچہ دیدار کی میں نے کی ہے دُعا پر کہاں میں کہاں سرور انبیاء  
 شرم آتی ہے صائم یہ کہتے ہوئے مجھ کو میری دُعا کا شرم چاہئے  
 یا رسول اللہ! ہم حقیر ہیں ہم بے نوا ہیں۔

لیکن آقا آپ کے گدا ہیں

آپ کے ماننے والے ہیں آپ کے محبت ہیں۔

آپ کے ترانوں کو لبوں پر سجا کر التجا کرتے ہیں کہ آقا ہم پر کرم فرما

کر ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمادیں۔

ہم چہ لطف عنایات فرمائیے

سب کے خوابوں میں تشریف لے آئیے

میرے حاجت روا میرے مُشکل کشا

سب کو مل جائے خیرات دیدار کی

یانی یانی یانی یانی

اور یہی التجا بارگاہِ ایزدی میں کرتے ہیں۔

اللہ سوہنیاں خواب دکھا مینوں تیرے نبی دا رخ انوار تکناں  
میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلیٰ شہکار تکناں  
اکھاں میریاں سوہنیاں پاک کر دے طیبہ پاک چہ نوری دربار تکناں  
حیدر میرے نصیب وچہ لکھ مولا تیرے مظہر دا جلوہ بار تکناں

## حسن رسول

کیونکہ یہ وہ حسن ہے یہ وہ چہرہ اطہر ہے کہ

اوہ ہو گیا دیوانہ تے شیدا حضور دا

اک وار چہنے ویکھیا جلوہ حضور دا

تو اسی احسن و حسین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ

میں ڈروں کے ہار سجا کر لائے ہیں ہمارے مہمان ثنا خوان کہ جن کے نام کا

حوالہ نعت رسول بن چکی ہے ہمارے ملک کے معروف ثنا خوان رسول

واجب الاحترام محترم المقام ہمارے ملک کی پہچان ثنا خوان رسول میں منفرد

مقام رکھنے والے جناب محمد سلیم صابری صاحب آف چیچہ وطنی،

سلیم صابری صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات

کی بات کر رہے تھے۔

حضرات گرامی! ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی ذات بابرکات سراپا معجزہ ہے آپ خود اللہ کا معجزہ ہیں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برحمان من ربکم، توجب حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل بن کر تشریف لائے تو اب کوئی بات رہ گئی۔

عزیزان گرامی! اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا دعویٰ ہے کیونکہ وہ واجب الوجود ہونے کے ساتھ غیب ہے وہ ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں مگر خود وہ غیب ہے جو غیب ہو اور اس کی بات کی جائے تو وہ صرف دعویٰ ہے اور دعویٰ اُس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک اُس کی دلیل نہ پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل بن کر حضور علیہ السلام تشریف لائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب جب میری الوہیت کی دلیل تم ہو اس لئے تم ہی کہو ”قل هو اللہ احد“ اے محبوب تم میری دلیل ہو ”بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّکُمْ“ اب میرے ایک ہونے کا اعلان بھی تم ہی کرو۔

حضرات گرامی! حضور اللہ کی دلیل ہیں اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی بھی حضور کی آمد کی بات کرتے ہیں۔

دلیل، کبریا بن کر حضور آئے حضور آئے  
بہارِ جانفزا بن کر حضور آئے حضور آئے

عقیدہ

آج بعض لوگ تاجدارِ انبیاء شاہِ دوسرا امام المرسلین خاتم النبیین

حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایسا دعویٰ کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔

عزیزانِ گرامی قدر! کوئی بھی صاحبِ عقل ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا جس میں وہ اپنا موازنہ حضورِ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائے حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں اور سڑک چھاپ مٹا کہاں ملا تو ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی عالم حق بھی نہیں ہو سکتا۔

حضور کی مثل کوئی ولی بھی نہیں ہو سکتا۔

آقا کی مثل کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔

بلکہ کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔

ایویں پیا ملکیت دے کریں دعویٰ رل نہیں سکا اتوں نبی دی آل دے مال

آل نبی زکوٰۃ نہیں لے سکا دی توں تے پلایا ایں زکوٰۃ دے مال دے مال

بے مثل نبی

حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل اور نظیر کوئی نہیں ہے

میرے نبی دی مثال ہو کوئی وی نہیں

ایسا سوہنا لچھال ہو کوئی وی نہیں

کیوں آکھئے بھرا سوہنے نبی پاک نُوں  
ایسا صاحبِ جمال ہور کوئی وی نہیں  
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔  
میرے سوہنے دی مثال تے نظیر کوئی ناں  
نبی پاک جیہا نُور تے مُنیر کوئی ناں  
نبی اُمتاں دے باپ ہندے بھائی جان نہیں  
تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی لکھتا ہے تمام انسان بھائی بھائی  
ہیں جتنے نبی پیغمبر ولی ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں اس مولوی کو مخاطب کر  
کے کہتا ہوں مولوی صاحب!

نبی اُمتاں دے باپ ہندے بھائی جان نہیں  
علی باجھ میرے مُصطفیٰ دا ویر کوئی نہیں  
ارے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے نظیر ہیں۔  
آپ کے چاہنے سے نظام کائنات تبدیل ہو سکتا ہے اور مولوی کے  
چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔

حضور کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے مولوی کے منہ بدلنے سے  
نماز بھی نہیں ہوتی۔

حضور کے چاہنے سے چاند زمین پر آ جاتا ہے مولوی کے چاہنے  
سے، پرندہ بھی زمین پر نہیں آتا۔

حضور کے چاہنے سے درخت چل کر آ جاتے ہیں

مولوی کے چاہنے سے اُس کی اولاد بھی کہنا نہیں مانتی۔

حضور کے چاہنے سے بارش برس جاتی ہے جبکہ مولوی کے نا چاہتے

ہوئے بھی اُس کی بیوی اُس پر برستی ہے تو پھر تقابل کہاں کا رہ گیا۔

حضور کا چہرہ والضحیٰ اور مولوی صاحب کا منہ،

حضور کے جسم اطہر پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔

مولوی کے جسم سے کبھی اُترتی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہیے۔ پنجابی میں

کہنا چاہیے۔

کہ کتھے مولوی کتھے نبی پاک !

کتھے خاک کتھے نور، کتھے ذرّہ کتھے طور

کتھے دین توں وی دور کتھے شارعِ آنحضور

کتھے ٹرن توں محتاج، کتھے صاحبِ معراج

کتھے کوڑھ گھرکھ کھاج، کتھے والضحیٰ دا تاج

کتھے ذرّہ کتھے چھ کتھے زہر کتھے قد

کتھے دھرتیاں دا گند کتھے عرش توں بلند

کتھے نری خرابات، کتھے جو ہر حیات

کتھے شوہدے وی اوقات، کتھے مُصطفیٰ وی ذات

فیر کیوں نہ کہواں !

ہے ناں نرا ای شدائی اوہنوں آکھے  
 وڈا بھائی جہڑا جان ہے جہان دی  
 کہاں مصطفیٰ کی ذات کہاں مولوی کم ذات  
 کتھے سکھ کتھے دکھ کتھے نرا کتھے رُکھ  
 کتھے سکی ہوئی نُکھ کتھے چنوں وڈھ مکھ

کتھے میل تے سُچیل کتھے دھون والا میل  
 کتھے وال وال وِیل کتھے گیسوئے واللیل

کتھے گوہ کتھے سیرا کتھے کتھے کتھے ہیرا  
 کتھے اکھیاں توں پیرا کتھے نُور تے مُنیرا

کتھے قال کتھے حال کتھے روڑ کتھے لعل  
 کتھے شوہدا تے کنگال کتھے آمنہ دا لال

کتھے چور ڈاکو ٹھگ، کتھے رحمتِ دو جگ  
 کتھے سینے وچہ اگ، کتھے چہرا جلمگ

کتھے دشمنی تے ویر کتھے بہتری تے خیر  
کتھے ونگے سدھے پیر کتھے لا مکانی سیر

کتھے ڈھٹھا ہویا ڈھارا کتھے عرش دا منارا  
کتھے نجد دا شرارا کتھے عرب دا ستارا

کتھے ہوس دا غلام کتھے جگ دا امام  
کتھے خام توں وی خام، کتھے سید انام

کتھے مجرم ناپاک، کتھے سید لولاک  
کتھے کھیاں وی جھاک کتھے رُخ ناباک

کتھے مندریں دی ریت، کتھے کعبہ تے مسیت  
کتھے گند تے پلٹ کتھے رت دا وی میت

کتھے ٹرن توں لاچار کتھے عرش توں وی پار  
کتھے یابی گنہگار، کتھے کُلی مٹار

کتھے احمق و نادان، کتھے صاحبِ قرآن  
کتھے جاہل و انجان کتھے کَلِّ غِیْبِ دَانَ

کتھے آپ ڈُب جاوے کتھے جگ ٹوں تراوے  
کتھے دوزخاں ٹوں دھاوے کتھے دوزخوں بچاوے

کتھے کاذب و لعین کتھے صادق و امین  
کتھے شقی بدترین کتھے عَرَبِ دَا حَسِینِ  
سامعین گرامی!

کتھے دین کھانی ڈین کتھے سرورِ کونین  
کتھے چُچے چُچے نین کتھے ابروئے قوسین

کتھے خاک دا دینہ کتھے نُورِ دَا خَزِینہ  
کتھے پاپی تے کینہ کتھے مہکدا پسینہ

کتھے خاطر و معتوب کتھے اللہ دا محبوب  
کتھے پیکرِ عیوب کتھے خُوب توں وی خوب  
غور فرمائیں!

کہتے تھیں تھیں سیو کہتے تھیں تیل کہتے گھو  
کہتے نجد والا دیو کہتے گل دا وی پیو

کہتے بغض تے نفاق کہتے مخلق اتفاق  
کہتے کوڑھ تے مراق، کہتے لب تریاق

کہتے دھوکا تے سُرَاب کہتے نُورِ آفتاب  
کہتے صورتوں قصاب، کہتے طہ دا خطاب

کہتے مجرم و رجم، کہتے رحمت و رحیم  
کہتے مٹاں اوہ وی نیم، کہتے خلا دا قسم

دسو! کوئی مقابلہ ہے؟

کوئی تقابل ہے؟

کوئی برابری ہے؟

کوئی مشابہت ہے؟

نہیں! کیونکہ،

کہتے احقر و ذلیل، کہتے احسن و جمیل

کہتے خاسر و رذیل، کہتے حشر و ذلیل

کتھے کبر تے غرور، کتھے کیف تے سرور  
کتھے نجد وا فتور، کتھے روشنی وا طور

کتھے دوزخاں وا راہی، کتھے جنّاں وا ماہی  
کتھے ہندو وا سپاہی کتھے کُلّ اُتے شاہی

کتھے جہل تے ظُلم کتھے پاک تے مَعصوم  
کتھے باپ نامعلوم، کتھے مخزنِ علوم

کتھے نتدیاں وا جال، کتھے ماڑیاں دی ڈھال  
کتھے دوزخاں وا مال، کتھے خُلد نال نال

صائم قلم تائیں روک، لُٹی نجد یاں دی جھوک  
ہویا فیصلہ دو ٹوک ہُن تے کہن سارے لوک  
ہے ناں نرا ای شدائی اوہنوں آکھے وڈا بھائی  
جمہرا جان ہے جہان دی

کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لئے کہ،

خدا چاہتا ہے رضائے محمد

کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اُن کے عروج کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔  
 ارے مسلّم مسلّم کہنے والو یہ حُجّت چلو مان لیتے ہیں ہم بھی  
 مگر مہماں جو بنا ہے عرش کا کوئی اور اُن سا دکھانا پڑے گا  
 یا بے مثل آقا کو کہنا پڑے گا یا سیدھا جہنم کو جانا پڑے گا  
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکیت کا دعویٰ کرنے والے یہ تو  
 سوچ لیں۔

☆ حضور نور ہیں قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ

☆ حضور کا سایا نہیں

☆ حضور شاہد ہیں اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

☆ حضور مبشر ہیں وَمُبَشِّرًا

☆ حضور نذیر ہیں وَنَذِيرًا

☆ حضور دعوت دینے والے ہیں وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ

☆ حضور نور ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا

☆ حضور رسول ہیں مُحَمَّدٌ رَّسُولَ اللَّهِ

☆ حضور آخری نبی ہیں وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

☆ حضور اول ہیں هُوَ الْاَوَّلُ

☆ حضور آخر ہیں وَالْاٰخِرُ

☆ حضور ظاہر ہیں وَالظَّاهِرُ

☆ حضور باطن ہیں وَالْبَاطِنُ

☆ حضور عالم الغیب ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

☆ حضور حاضر ناظر ہیں النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

☆ حضور کا چہرہ وَالضُّحَىٰ

☆ حضور کی زلفیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

☆ حضور کا سینہ لَكَ صَدْرَكَ

☆ حضور کا ذکر رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

☆ حضور کا لقب يَسِينُ وَ طه

☆ حضور کی جان لَعْمُرُكَ

☆ حضور کا خلق اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

بے مثل اللہ بے مثال نبی

اوپدی مثل کوئی میں ایہدی مثل کوئی میں

جہڑا ایہناں دا ہووے گستاخ حیدر

اوپدا پو کوئی میں اوپدی اصل کوئی نہیں

کیونکہ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخی نہیں کر سکتا

اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایمان کی جان ہیں۔

سب کہہ دیں! آقا تو؟ ایمان کی جان ہیں۔

آقا تو؟ خدا کی شان ہیں۔

حضور تو؟ کل ایمان ہیں۔

حضور تو؟ انبیاء کے سلطان ہیں۔

حضور تو؟ اُمت کے مہربان ہیں۔

حضور تو؟ محبوب ربِّ رحمان ہیں۔

حضور تو؟ صاحبِ قرآن ہیں۔

اب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ عقیدت کے اظہار کے لئے دعوتِ قصیدہ دُوں گا ثنا خوان رسول شاہکارِ سرو تال بلکہ یوں کہ لیں کہ سرو تال کے مالک ہیں اچھے خیال کے مالک ہیں ثنا خوان رسول کے لئے سوز کی دال ہیں نام کے لحاظ سے جناب حافظ ظفر اقبال ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب۔

## محفل نور

حضرات گرامی! ☆ یہ محفل نور ہے

ہمیں حاصل سرور ہے

غم ہم سے دُور ہے

کیونکہ وقت حضور ہے

ہر شخص سرور ہے

یہ محفل بہار ہے  
 وجہِ عین و قرار ہے  
 ہر طرف نکھار ہے  
 ساعت آمد حبیبِ غفار ہے  
 ہم سب میں آقا کی محبت اور پیار ہے  
 ☆ یہ محفل میلاد ہے  
 ہر شخص شاد ہے  
 غموں سے آزاد ہے  
 ہمارے لبوں پر فریاد ہے  
 اور ہمیں حاصل رسول اللہ کی امداد ہے  
 ☆ یہ محفل مقدس و سبحان ہے  
 ہر شخص پر وجدان ہے  
 یہاں بخششوں کا سامان ہے  
 ہم پر آقا کا فیضان ہے  
 کہ ہمارے لبوں پر آقا کی شان ہے  
 ☆ یہ محفل نعت رسول ہے  
 چاند جن کے قدموں کی دھول ہے  
 جن کا ذکر ہر دم مقبول ہے

جن کا عدو مرتد و مجہول ہے

جن کی غلامی ایمان کا اصول ہے

☆ یہ محفل نور الہدیٰ ہے

جن کی یہ محفل ہے

ان کا چہرہ واضح ہے

ان کی زلف و لیل اذ انبشما ہے

ان کی چشمان مازع البصر و ما طغیٰ ہے

ان کی شان میں شاعر او مبشر آوند پرا ہے

☆ یہ محفل درود ہے

یہاں آقا کا درود ہے

جو محبوب رب و درود ہے

شاعر و مشہود ہے

اور محفل میں آنے والا ہر شخص سعید و مسعود ہے تو اب میں اس پیاری

محفل میں دعوت خطاب دوں گا واجب الاحترام محترم جناب محمد ملازم حسین

ڈوگر صاحب کو کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور

فرمائیں۔

## حضور ﷺ کی آمد

حضرات گرامی !

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا ایمان کی نشانی ہے۔  
آمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی ہر طرف بہار آگئی، طائرانِ چمن خوش ہو گئے۔

مظلوموں کو ظلم سے نجات ملنے والی تھی آمدِ رسول کے مرثوہ جاں فزا  
سے اُن کے چہروں پر رونق آگئی۔

ہاروت ماروت چاہِ باہل میں جھوم اُٹھے کہ اُن کی سزا ختم ہونے کا  
وقت آگیا۔ بے گناہ لڑکیاں جو معاشرے کی خباثت کا شکار ہو کر زندہ قبر میں  
دفن ہو جاتی تھیں مطمئن ہو گئیں کہ ہمیں سہارا دینے والا آگیا ہے۔

انبیائے کرام خوشیوں میں شامل ہیں کہ اب وہ ہمارا امام تشریف  
لے آیا جو مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ بے  
کسوں کا سہارا ہے۔

سہارا سارے جہاں کا بن کر حبیبِ ربِّ الانام آیا  
ستارے سارے چلے گئے تو ہمارا ماہِ تمام آیا  
رسول سارے قطار باندھے کھڑے اُدب میں ہیں اُن کے پیچھے  
نہ کوئی ایسا رسول آیا نہ کوئی ایسا امام آیا

سب مسکرا رہے ہیں۔

مرا حبیب مرا تاجدار آیا ہے  
 جمعی تو سارا زمانہ یہ مسکرایا ہے  
 سبھی خوش ہیں۔

عجب حُسن آیا زمین و زماں میں  
 عجب نُور ہے جلوہ گر دو جہاں میں  
 ہوا حُسنِ محبوب جلوہ نما ہے  
 زمیں سے فلک تک مُبارک صدا ہے  
 ہیں حُوروں نے ہر سمت جُھر مٹ لگائے  
 ملک پا برہنہ قطاروں میں آئے  
 بڑی شان والی یہ صائم گھڑی ہے  
 دو عالم میں پھیلی ہوئی روشنی ہے  
 خُدا کی محبت کا پیغام لے کر  
 خُدا کے پیارے حضور آگئے ہیں  
 نُور ہی نُور ہے کیف ہی کیف ہے  
 غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی  
 آمنا کو خُدا کی خُدائی ملی  
 جس کی را ہیں سجاتے رہے انبیاء

جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء  
 مٹ گئی ظلمتیں چھٹ گئی تیرگی  
 تن گئیں چادریں کیف وانوار کی  
 سارے سجدوں میں صائم صائم گر گئے  
 بُت کدوں میں عجب انقلاب آگیا  
 آج یومِ مسرت ہے مظلوم کا  
 سب جہاں والے خوش ہیں  
 مقدر تو دیکھو حلیمہ کے صائم  
 کہ گھر جس کے باغ نعیم آگئے ہیں  
 مبارک تمہیں اے یتیموں مبارک  
 کرم بن کے موزِ یتیم آگئے ہیں  
 خطا کا روٹم آج مجھو مو خوشی سے  
 محمدؐ رؤف الرحیم آگئے ہیں  
 ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں  
 حضرات گرامی! آمد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمانوں  
 پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں فرشتے آج مسرت سے شادماں ہیں حضور کی  
 آمد پر آسمان پہ جھنڈا لہرا رہا ہے زمیں پر بھی خوشیوں کا سماں ہے حضرت  
 علامہ صائمؒ چشتی رحمۃ اللہ علیہ منظر کشی کرتے ہیں۔

خُوشیاں خُدا نے گھلیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلیاں

دس دے نے اے نظارے سرکار آگئے نے

کر دے نے رقص تارے سرکار آگئے نے

خُوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے

سبھی خوش ہیں! ہوا کی مستی اس! سہ کی گواہی دے رہی ہے۔۔۔

بھی آمد رسول خوشی سے جھوم رہی ہے۔

محمد مصطفیٰ آئے فضاواں مسکرا پیاں

گھٹاواں نُور بَرساون ہواواں مسکرا پیاں

تبسم آمنہ دے لال نے جس وقت فرمایا

حُسن دیاں ساریاں رنگیں اداواں مسکرا پیاں

حضراتِ گرامی! اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں سے فرما رہا ہے

فَلْيَفْرَحُوا خُوشیاں کرو۔

مو منو آج خوشیاں مناؤ میرے آقا کی جلوہ گری ہے

ہر طرف نُور پھیلا ہوا ہے میرے آقا کی آمد ہوئی ہے

آئے جبریل جھنڈے جھلانے خُوریں آئی ہیں نعین سنانے

اُن کی راہوں میں پلکیں بچھا دو آئی خوشیوں کی نوری گھڑی ہے

ہر طرف خُوشیاں ہی خوشیاں ہیں ہر طرف مسرت ہی مسرت ہے اور

بھی کہہ رہے ہیں۔ خوشی ہے آمنہ کے لعل کے تشریف لانے کی

سرکار کی آمد پر ہر سو خوشیوں کے بادل چھائے ہیں  
جبریل نے آکر کعبے پر نوری جھنڈے لہرائے ہیں  
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی  
آج اے بہار دے اُتے تازہ بہار آگئی !  
خوشیاں دے پھل برسائے سوہنے دے اُون تے  
سوہنے نے کرم کمایا پھیرا مقصود ہے پایا  
رَب بیڑے بنے لائے سوہنے دے اُون تے  
ہر طرف خوشیوں کے ترانے گونج رہے ہیں !

حضرات گرامی ! حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت  
خدا بن کر عالمین کے لئے رحمتوں کا سامان لے کر رحمتوں کے مہینے میں رحمتیں  
فرمانے کے لئے تشریف لائے۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہیں

☆ حضور علیہ السلام اللہ کی نعمت ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کا نور ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کی بُرہان ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے مقرب ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے جانشین ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے طالب ہیں۔

☆ حضور علیہ السلام اللہ کے محبت بھی ہیں اور محبوب بھی۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیائے کرام کا سردار بنا کر بھیجا

اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرِ اقدس پر تمام انسانوں کی سرداری کا تاج پہنا کر بھیجا

اس لئے آپ کی آمد پر مسلمان خوشیوں سے آپ کے میلاد کی محافل سجاتے

ہیں اور آج کی محفل بھی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر خوش

کرنے کے حوالہ سے سجائی گئی ہے تو اب میں اس محفل میں خوشیوں بھری

نعتِ میلاد سنانے کے لئے دعوت دیتا ہوں جنابِ محترم صاحبزادہ محمد وقاص

الیاس صاحب کو کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو نعتِ میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم سے مخلوظ فرمائیں۔ جناب محمد وقاس الیاس صاحب۔

## شہر مدینے جاواں میں

حضرات گرامی! محترم شاخوان رسول ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے احسن انداز سے کر رہے تھے ذکر محمد ولوں کو نکھارتا بھی ہے اور ولوں سے میل نکال کر ولوں کو پاک و صاف بھی کرتا ہے ذکر محمد ایسا ذکر ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

آ کرے ذکر محمد دا

سُن راضی ربّ دی ذات ہووے

اوہنوں دو جگ دا سلطان کہواں

اوہدی ہر گل نون قرآن کہواں

داتا دا لنگر جاری اے

گل عالم اوہدا بھکاری اے

اوہ داتا بھکھیاں تکیاں دا

اوہ مان ہے ماڑیاں چنگیاں دا

الحمد للہ۔ محفل میں عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی نیندیں

قربان کر کے ذکر رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے کہ۔

اوپرے عاشق سوناں جان دے مہیں  
 پلکاں نوں ملاؤناں جان دے مہیں  
 سامعین گرامی !

میں خادم نبی دے یاراں دا  
 ہم آل کے بھی غلام ہیں اور اصحاب کے بھی غلام ہیں۔

میں خادم نبی دے یاراں دا  
 میں منگتا پنجاں باراں دا  
 ☆ انت صائم کراں دُعاواں میں  
 آج شہر مدینے جاواں میں  
 اس لئے کہ !

پنچاں مدینے چھیتی کتے ساہ نکل نہ جاوے  
 مینوں آج دی شام مولا روضے نبی تے آوے  
 آج شہر مدینے جاواں میں  
 ☆ انت صائم کراں دُعاواں میں  
 وقت لائے خدا سب مدینے چلیں  
 نوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں  
 سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلیں  
 میری صائم دُعا آج کی رات ہے

یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما !

☆ انت صائم کراں دُعاواں میں  
اور پھر !

لے صائم حُسن قرینے دا  
رُخ کر تو ٹھیک مدینے دا  
اُج منگ لو سفر مدینے دا  
☆ انت صائم کراں دُعاواں میں  
اُج شہر مدینے جاواں میں  
ذرا دردِ دل سے دُعا مل کے مانگو  
خدا ہم سبھی کو دکھائے مدینہ

☆ انت صائم کراں دُعاواں میں  
اُج شہر مدینے جاواں میں

مدینہ کے والی رسولِ دو عالم  
دکھادے مدینہ برائے مدینہ  
☆ انت صائم کراں دُعاواں میں  
اُج شہر مدینے جاواں میں

کیونکہ !

میری جستجو مدینہ میری زندگی مدینہ  
 دن رات یہ دُعا ہے دیکھوں کبھی مدینہ  
 رو رو تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہا ہوں

بہرِ خُدا دکھاؤ اب یانہی مدینہ

☆انت صائم کراں دُعاواں میں

اُج شہر مدینے جاواں میں

جامی تو میں نہیں ہوں جامی کا ہمنوا ہوں

اک بار اب دکھا دے مجھے اپنا آستانہ

☆انت صائم کراں دُعاواں میں

اُج شہر مدینے جاواں میں

مانگ لو مانگ لو چشمِ تر مانگ لو

دردِ دل اور حُسنِ نظر مانگ لو

کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو

مانگنے کا مزا آج کی رات ہے

☆انت صائم کراں دُعاواں میں

اُج شہر مدینے جاواں میں

کیونکہ !

رو رو کے نین میرے سک خار ہو گئے نے  
 ساتھی عرب دے سارے تیار ہو گئے نے  
 طیبہ دیاں میں جا کے ہن ویکھ لاں بہاراں  
 چم چم کے جالیاں نون سر دے ایہہ نین ٹھاراں  
 طیبہ دی یا الہی سے ہر اکت گلی دا صدقہ  
 کردے مراد پوری مولا علی دا صدقہ  
 اے دو جہاں دے مالک آساں نہ توڑ دیویں  
 نٹے ہوئے مقدر ہن میرے جوڑ دیویں  
 بن تیرے ہور کبھدا بگڑی میری بناوے  
 ہن نعت جا کے صائم سوہنے دے گھر سناوے  
 ☆ انت صائم کراں دُعاواں میں  
 آج شہر مدینے جاواں میں  
 دلاں دے درد دا دائرہ ہوا مدینے دی  
 کراوے سب نون زیارت خدا مدینے دی  
 سراپا خلد ہے طیبہ دا ہر گلی کوچہ  
 تے خاک ساری اے خاک شفا مدینے دی  
 کیہہ ذکر اتھے گداواں تے بادشاہواں دا  
 خدا دی ساری خدائی گدا مدینے دی

خُدائی کہتے ہیں خُدا کے ماننے والوں کو

خُدائی کہتے کائنات میں بسنے والوں کو خُدائی کہتے ہیں اور یہ ساری

خُدائی یہ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدا ہے۔

مدینے پاک چوں عرشاں نوں نور جاندا اے

ہمیرے دل دا سہارا ضیاء مدینے دی

نہ چاہواں دُنیا نہ جنت دی ہے طلب صائم

ہے میرے لب تے ہمیشہ دُعا مدینے دی

☆نت صائم کراں دُعاواں میں

اج شہر مدینے جاواں میں

کیونکہ !

☆مدینہ خلق اور پیار کا شہر ہے۔

☆مدینہ نبیوں کے سردار کا شہر ہے۔

☆مدینہ خلد کی بہار کا شہر ہے۔

☆مدینہ محبوب ربّ غفار کا شہر ہے۔

☆مدینہ تجلیات و انوار کا شہر ہے۔

☆مدینہ چین اور قرار کا شہر ہے۔ اب شہر رسول کی بات کرنے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ طہارت میں عقیدت کے پھول

پیش کرنے کیلئے میں دعوت دیتا ہوں واجب الاحترام مُحترم جناب ساجد علی

ساجد صاحب کو ان کا تعارف ان جملوں میں مزید نکھر جائے گا کہ !  
یہ ثناخوانِ رسول ہیں اور عاشقِ رسول ہیں۔

ساجد کی سین ان کے سعید ہونے کا ثبوت ہے۔

ساجد کا الف ان کے غلامِ اُحید ہونے کا ثبوت ہے۔

ساجد کا جیم ان کے جنت کے مالک کے نوکر ہونے کا ثبوت ہے۔

ساجد کی وال ان کے دلدارِ سامعین ہونے کی دلیل ہے۔ اس دلیل

کی صداقت کا ثبوت ان کی آمد سے قبل نعرے سے دیجئے!

نعرۂ تکبیر..... نعرۂ رسالت..... نعرۂ حیدری.....

محترم ثناخوانِ رسول.....

## محبوب کی بات

عزیزانِ گرامی !

گل گلاں وچہ پائیے تے گل پیندی گلوں لاه گلاں اکو گل کرئیے  
گل کو اردو میں بات کہتے ہیں اور بات اگر ایک کرنی ہے تو وہ کملی  
آقا کی نعت ہی کی بات ہو سکتی ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے  
ہیں !

کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے  
بطحا کے ناخدا کے سہارے کی بات ہے

جس پر ہوئی ہے انتہاء ہر اک عروج کی  
 ☆ اُس آمنہ کے راج ڈلارے کی بات ہے  
 پھر کیوں نہ کہوں !

محبوب محمد عربی دے انوار دیاں کیا باتاں نیں  
 آئے سوہنے جگ تے ہوڑ بڑے سرکار دیاں کیا باتاں نیں  
 یہ بھی !

☆ اُس آمنہ کے راج ڈلارے کی بات ہے

جس کا !

رُخ والشمس تے ابرو طہ لب یوحی نورانی  
 اکھ مازاغ تے ہتھ ید اللہ مطلع فجر پیشانی  
 سب توں سوہنا سب توں اعلیٰ ہر بالاتوں بالا  
 پاک محمد سرور عالم کالی کملی والا  
 نور جبین منور چہرہ بدر منیر پیارا  
 سورج پرت پچھاں نوں آوے جسدا ویکھ اشارا  
 ☆ اُس آمنہ کے راج ڈلارے کی بات ہے

طہ جنکی جبیں نور جن کے قدم  
 اُن کی وایل زلفوں پہ قربان ہم  
 جن کی نظروں سے سارے نظارے بنے

جن کے تلوؤں کا دھوون ستارے بنے  
 جن سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے  
 ☆ اُس آمنہؓ کے راج ڈلارے کی بات ہے

دونوں عالم کو دیتا ہے تنویر جو  
 دونوں عالم کی لکھتا ہے تقدیر جو  
 جو بھی مرضی ہو کرتا ہے تحریر جو  
 جس کے قبضے میں صائم ہیں لوح و قلم  
 ☆ اُس آمنہؓ کے راج ڈلارے کی بات ہے

شفیع معظم و نور مجسم  
 امام رسولاں نبوت کا خاتم  
 بشیراً نذیراً محمد مكرم  
 جو رُوح دو عالم ہے سلطان عالم  
 ☆ اُس آمنہؓ کے راج ڈلارے کی بات ہے

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| عقيل | خلق  | رفيق | شفيع |
| خليل | صديق | طبيب | خطيب |
| جميل | حكيم | كريم | رحيم |
| كليل | بدیع | رفيع | شفيع |
| بشير | صهيد | مجيد | حميد |

شریف      حقیقت      لطیف      خبیر  
 عظیم      علیم      سمیع      بصیر  
 ظہوراً      ظہوراً      سراجاً      منیراً  
 جو صائم کا داتا ہے عالم کا والی  
 عظمت ہے خلقت میں جس کی نرالی

☆ اُس آمنہؓ کے راج ڈلارے کی بات ہے

عزیزانِ گرامی قدر! اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نہ حد ہے نہ ہی حساب  
 میں آسکتی ہے مگر تمام مخلوقات میں جو ہستی سب سے مکرم و محترم ہے، معظم و  
 محترم ہے وہ ذات تاجدارِ انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 کی ہے جن کے ادنیٰ سے اشارے سے اُن کی بھی مغفرت ہو جائے گی جن پر  
 جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

ہم گنہگاروں کی بخشش بروزِ محشر  
 آقا کے ایک ادنیٰ اشارے کی بات ہے  
 حضراتِ گرامی! آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم  
 ☆ جو تاجدارِ رسولاں ہیں۔

☆ جو محبوبِ یزداں ہیں۔

☆ جو صاحبِ نُورِ قرآن ہیں۔

☆ جو نورِ ایماں ہیں۔

☆ جو جانِ ایماں ہیں۔

☆ جو سید و سلطان ہیں۔

☆ جو اعظم و ذی شان ہیں۔

☆ جو کاملِ انساں ہیں۔

☆ جو نورِ رحماں ہیں۔

☆ جو جانِ رسالت ہیں۔

☆ جو شانِ رسالت ہیں۔

☆ جو آقائے رحمت ہیں۔

☆ جو شافعِ امت ہیں۔

☆ جو شمسِ لضمحیٰ ہیں۔

☆ جو بدرالدجیٰ ہیں۔

☆ جو خیر الوریٰ ہیں۔

☆ جو نورِ خدا ہیں۔

☆ جو شاہِ زمن ہیں۔

☆ جو آقائے من ہیں۔

☆ جو نوری کرن ہیں۔

☆ اُس آمنہؓ کے راجِ دُلا رے کی بات ہے

تو اُس حبیبِ کبریا سیدِ ارض و سما حضرت سیدنا محمدؐ = ائمہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم بے کس پناہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں  
محترم جناب قاری محمد عنایت اللہ چشتی گوڑوی صاحب اپنے دلنشین انداز  
اور مترنم آواز میں بارگاہِ شفیعِ اُمم میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

## تاجدارِ عالم

حضراتِ گرامی قدر! آقائے دو جہاں

☆ سراجِ منیر

☆ رب کی تنویر

☆ مالکِ تطہیر

☆ مالکِ تقدیر

☆ سید و سرور

☆ افضل و برتر

☆ بابِ عطا

☆ نورِ خدا

☆ صلِّ علی

☆ شاہِ سما

☆ رُوحِ صفا

☆ حق کی رضا

☆ رُوفٌ ورحيم

☆ دُرِّ تيم

☆ نُورِ قديم

☆ نُورِ عظيم

☆ انعمِ قسيم

☆ نبيِ وعليم

☆ شفيعِ وكريم

بلکہ !

☆ تزئينِ ارضِ و سما

☆ محبوبِ ربِّ کبريا

☆ آيينہِ حقِ نما

☆ معدنِ جو و وسخا

☆ مخزنِ لطفِ و عطا

☆ منظرِ ربِّ العلاء

☆ مالکِ ارضِ و سما

☆ شانِ لولاکِ لَمَّا

☆ زمينتِ باغِ جناں

☆ مالکِ کونِ و مکاں

☆ رحمتِ ہر دو جہاں

☆ باعثِ کن فکاں

بلکہ !

دو عالم دی رحمتِ میرا کملی والا

خدا دی محبتِ میرا کملی والا

دِلاں دیکھو اے راحتِ میرا کملی والا

غریباں دی ثروتِ میرا کملی والا

کرے گا شفاعتِ میرا کملی والا

بہارِ رسالتِ میرا کملی والا

فرازِ نبوتِ میرا کملی والا

غلامِ اوہدا صائمِ اوہ آقا ہے سب دا

مرے گھر دی برکتِ میرا کملی والا

حضراتِ گرامی ! حضرتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر

کرم ہی فرماتے ہیں اُن۔ کئے گھروں میں تشریف بھی لاتے ہیں اور اُن کو

برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔

غلامِ اوہدا صائمِ اوہ آقا اے سب دا

مرے گھر دی برکتِ میرا کملی والا

## محفلِ محبوب

حضراتِ محترم ! میلاد کی محفل بھی ہوئی ہے، ہر طرف فضا نُور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اسٹیج سے لے کر پنڈال تک نُور ہی نُور ہے میں اور آپ ہم سب نُور میں نہائے ہوئے ہیں یہ سب اس لئے ہے کہ یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور مقدس محفل ہے۔

☆ سرکار کی محفل میں نور ملتا ہے۔

☆ سرکار کی محفل میں سرور ملتا ہے۔

☆ سرکار کی محفل میں بغض چکنا چور ہوتا ہے۔

☆ سرکار کی محفل سجانے سے خود رتِ غفور ملتا ہے۔

☆ سرکار کی محفل میں آنے سے شعور ملتا ہے۔

☆ ہر ایک کو نوازا جاتا ہے۔

☆ ستاروں کو چمک ملتی ہے۔

☆ چاند کو دمک ملتی ہے۔

☆ پھولوں کو مہک ملتی ہے۔

پھر کیوں نہ کہوں !

تاروں نے ضیاء پائی سرکار کی محفل میں

ہر غم کی دوا پائی سرکار کی محفل میں

ہر اک کو مدینے کی مہکار مبارک ہو  
 جو لوگ اس محفل میں اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اُن کی نذر  
 یہ شعر ہے !

ہر اک کو مدینے کی مہکار مبارک ہو  
 کہنے یہ صبا آئی محبوب کی محفل میں  
 عزیزانِ گرامی قدر !

سرکار کی محفل میں آنے والوں کو دکھوں اور غموں سے نجات حاصل  
 ہو جاتی ہے اسی بات کو شاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔

ہر دل نے سکوں پایا ہر جاں کو ملی راحت  
 ہوئی ہے مسیحا کی محبوب کی محفل میں  
 اور یہ بھی محفلِ میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اس  
 محفل میں فرشتے بھی آتے ہیں۔

تھک تھک کے فرشتے بھی خود دیکھنے آتے ہیں  
 یہ حُسن یہ رعنائی محبوب کی محفل میں  
 مقصود ملا اُن کو جو چھوڑ کے بیٹھے ہیں  
 ہر دعویٰ ءِ دانائی محبوب کی محفل میں

اس نورانیت مآب محفل میں صدائے رحمت فرشتے بلند کر رہے ہیں  
 اور ہم ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں اسی طرح رحمتیں سمیٹتے رہے

اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک بھیجے  
کہا آج سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر راضی ہو جائیں۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

## گنبدِ خضریٰ

حضراتِ گرامی ! عاشقانِ رسول کی جانِ مدینہ ہے اور مدینہ طیبہ  
کی جانِ گنبدِ خضریٰ ہے یہ وہ ہر گنبد ہے جو ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک  
ہے۔

- ☆ گنبدِ خضریٰ سرچشمہ نور ہے۔
- ☆ گنبدِ خضریٰ مسکنِ شاہِ انبیاء ہے۔
- ☆ گنبدِ خضریٰ نورِ کاتبہ ہے۔
- ☆ گنبدِ خضریٰ نور کی کان ہے۔
- ☆ گنبدِ خضریٰ عاشقوں کی جان ہے۔
- ☆ گنبدِ خضریٰ زمین میں سے افضل ہے۔
- ☆ گنبدِ خضریٰ اکمل و اجمل ہے۔
- ☆ گنبدِ خضریٰ شعائر اللہ ہے۔

کہ گنبدِ خضریٰ میں آرام فرمانے والا حبیب اللہ ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ میں حاضر

ہوئے وہاں گنبدِ خضریٰ پر نظر پڑی تو آپ کی زبان سے اللہ اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں !

نظر جب پڑی سبز گنبد پہ میری  
مُسلل میں کہتا رہا اللہ اللہ  
اور عرش اور روضہ اطہر یعنی گنبدِ خضریٰ کی بات یوں کرتے ہیں  
محمد دے روضے دی چوٹی دے ولے  
خمیدہ اے عرش بریں اللہ اللہ  
جناب عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں !

گنبدِ خضریٰ خدا تجھ کو سلامت رکھے  
دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بھا لیتے ہیں  
اور مدینہ طیبہ رہنے اور گنبدِ خضریٰ کے قریب رہنے کہ التجاء احمد ندیم  
قاسمی صاحب یوں کرتے ہیں !

میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن  
مجھ کو ہمسائیگی، گنبدِ خضریٰ دے دے  
اور گنبدِ خضریٰ کے دیدار کی تمنا یوں کرتے ہیں !  
یا رسول اللہ !

گنبدِ خضریٰ کے نظارے دیکھ لوں  
رحمتوں کے پھر اشارے دیکھ لوں

اور ابرو وارثی رحمۃ اللہ علیہ گنبدِ خضریٰ کی بات یوں کرتے ہیں کہ !  
 ہے میرے پاک محمد وا پیارا گنبد  
 جگ دے ہر اک ہے اوہ گنبد تھیں نیارا گنبد  
 دل ہے چاؤندا کہ سدا ویکھدے رپے اُسنوں  
 اگے اکھیاں دے زہوے نت اوہ دُلا را گنبد  
 دیکھ کے اوس نوں ہندا اے کلیجہ ٹھنڈا  
 آیا مرغوب ہے اوہ سبز سوہارا گنبد  
 دل ہزاراں ای فدا اس توں کروڑاں جاناں  
 گنہگاراں دی ہے بخشش دا سہارا گنبد  
 چن دے اک نال جیوں ہندا اے ستارا پیارا  
 اونویں رکھدا ہے اوہ اک کول مینارا گنبد  
 دیکھے اک وار جو اے آبر اوہ ہر دم آکھے  
 کہ دکھا دے میرے مولا اوہ دوبارہ گنبد

## گنبدِ خضریٰ

حضراتِ گرامی ! واجب الاحترام محترم ثناخوانِ رسول گنبدِ  
 خضریٰ کی بات کر رہے تھے گنبدِ خضریٰ پر ہماری جانیں قربان ہوں۔  
 سامعینِ کرام ! گنبدِ خضریٰ کی سبزی پر عالمین کی سبزی نچھاور ہو۔

گنبدِ خضریٰ کی چوٹی پر تمام عالمین کی دولتِ قربان ہو کہ گنبدِ  
خضریٰ تو فرشتوں کی زیارت گاہ ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ  
فرماتے ہیں !

فرشتے جو لیں سبز گنبد کے پھیرے  
یہ کعبہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟  
جہاں کعبہ بھی اپنے سر کو جھکائے  
وہ قبلہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟  
اور پھر یوں کہہ لیں کہ !

سمائے کیسے میرے دل میں عرش کی رفعت  
جمالِ گنبدِ خضریٰ نظر میں رہتا ہے

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جس پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جس کے صدقہ سے دُنیا پچی ہوئی ہے۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جس کے نور سے ساری کائنات بجی ہوئی ہے

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جس پر جنت کا نور نازاں ہے۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جو ساری دُنیا میں فروزاں ہے۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جس کے جلوؤں سے جہان چمک رہا ہے۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جسے نور کا نگینہ کہتے ہیں۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جسے رحمت کا خزینہ کہتے ہیں۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جسے جلوہ گاہِ شاہِ ابرار کہتے ہیں۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جسے ارض و سما کا سردار کہتے ہیں۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جیسے نیرِ تاباں کہتے ہیں۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے جسے زمین کا اختر کہتے ہیں۔

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے مرکزِ اطہر کہتے ہیں

☆ یہ وہ گنبدِ خضریٰ ہے !

میری آنکھوں سے اُجالا تو اے سورج لے لے

گنبدِ خضریٰ کا ہے نورِ میری آنکھوں میں

﴿توصیفِ حیدر﴾

حضراتِ گرامی ! ہم سب کی تمنا ہے کہ گنبدِ خضریٰ کا درشن پائیں

ہم بھی شہرِ مدینہ جائیں وہاں گنبدِ خضریٰ کے سائے تلے کھڑے ہو کر اپنی

مناجات اپنے آقا و مولیٰ کو سنائیں۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خواب

میں گنبدِ خضریٰ کی زیارت ہو وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ خواب

میں گنبدِ خضریٰ دیکھنا معمولی بات نہیں ہے۔

خواب میں جب بھی کبھی گنبدِ خضریٰ دیکھوں

اپنے پیکر کو سرِ اوجِ ثریا دیکھوں

تو خواب میں بھی گنبدِ خضریٰ کا دیدار کرنا بڑی بات ہے مگر اُس سے

بڑی بات یہ ہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر وہاں گنبدِ خضریٰ کی زیارت

سے مشرف ہوں تو جو لوگ مدینہ طیبہ جا کر گنبدِ خضریٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔

حضراتِ گرامی ! میں دُعا کرتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ بلند

آواز سے سبحان اللہ کہے یا اللہ تو اُسے گنبدِ خضریٰ کی زیارت نصیب فرما۔

حضراتِ گرامی ! ہر شخص کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے ہر شاعر کا اپنا

انداز ہوتا ہے راز مراد آبادی کہتے ہیں میں جنت میں گیا وہاں مجھے گنبدِ

خضریٰ نظر نہیں آیا تو پھر میں رضوان کے پاس چلا گیا اور کہا !

رضواں ! تیری جنت میں مرا جی نہیں لگتا

میں نے تو یہاں گنبدِ خضریٰ نہیں دیکھا

تو رُباعی پیش کر کے اگلے شاخوآن رسول کو دعوت دیتا ہوں۔

میرے سوہنے دے روضے دی ولاں والا

کم اِکو تجلی اے کری جاندی

روضہ ویکھ کے جان وچہ جان پیندی

قَلب جُھوم جاندا رُوح ٹھَر جاندی

صائم شہر مدینے چہ جاندیاں ای

حرص ہوں جہان دی مَر جاندی

سبز گنبدِ جد ساہنے نظر اوندی

جھولی اکھیاں دی آپے بھر جاندی

سب مل کر کہہ دیں ! سبحان اللہ

عزیزانِ گرامی ! اب آپ کے سامنے بڑے ہی پُر نَم آواز کے حامل ثناخوان کو پیش کرتا ہوں جن کی آواز بے نظیر ہے کیونکہ یہ ثناخوان محبتِ رسول اور دربارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہے پہچان کے حوالہ سے سارے ملک میں شہیر ہے نعتِ رسول کا دبیر ہے غلامِ حضرت شہیر ہے نام کے لحاظ سے محمد نصیر ہے تشریف لاتے ہیں جناب محمد نصیر چشتی قادری صاحب اور بارگاہِ امام المرسلین میں ہدیہءِ صلوة و سلام پیش کرتے ہیں ۔

## سنہری جالیاں

حضراتِ گرامی ! محترم ثناخوان نعتِ شریف پڑھ رہے تھے جس میں مقدس جالیوں کا ذکر تھا۔ روضہ انور سے متصل سنہری جالیاں ہیں جن پر آیاتِ قرآنیہ کے ساتھ دُرود و سلام بھی ندائیہ الفاظ کے ساتھ درج ہے۔

سامعین محترم ! یہ سنہری جالیاں ایسی دلکش و دل آراء ہیں کہ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ان جالی مبارکہ کے سامنے کھڑا ہو کر بارگاہِ رسالت میں دست بستہ صلوة و سلام اور اپنی معروضات پیش کرے۔

حضراتِ گرامی ! سنہری جالیوں کی کیا بات ہے، سنہری جالیوں کی کیا شان ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنہری جالیوں کا مقام و

مرتبہ بیان فرماتے ہیں۔

کعبے وا نور اُجالا جالی حضور دی اے  
 عرشاں تو ارفع اعلیٰ جالی حضور دی اے  
 جالی نوں چُھنّ ولے غوث و ابدال بن گئے  
 یہ وہ جالی مبارکہ ہے کہ جہاں سے چھن چھن کر نکلنے والا نور پوری  
 دُنیا کے مُسلما نوں کے قلوب کو منور کر رہا ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جو سرکار کی قبر اطہر سے منسلک ہیں۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جو عرش سے اعلیٰ ہیں۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مقام فہم و ادراک سے ماوریٰ ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جہاں فرشتے قیام کرتے ہیں۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جہاں غوث و ابدال کھڑے ہوتے ہیں اس

لیے کہ یہاں سے رُوحانیت کا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مقام آسمانوں سے زیادہ بلند ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جو جنت کے باغ پر نصب ہیں۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جن کو احترام و عقیدت سے چوم لینے سے اللہ کا

فیضان حاصل ہو جاتا ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مقام ارفع ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جن کی شان اعلیٰ ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مرتبہ بلند ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جن کی شان نرالی ہے۔

☆ یہ وہ جالیاں ہیں جن پر ہماری جانیں قربان اور نثار ہیں۔

حضرات گرامی ! ہم دُعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پیاری محفل

کے صدقے ہمیں سنہری جالیوں کی زیارت نصیب فرما کہ یہ جالیاں تیرے  
نزدیک ارفع و اعلیٰ ہیں۔

جناب محمد سعید نے کیا خوب کہا !

خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے

سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے

اور جناب محمد علی ظہوریؒ کیا خوب کہتے ہیں !

تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے

جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے

حضرات گرامی ! سنہری جالیوں کی بات ہر عاشق کرتا ہے ہر

ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے

بات کر کے قلم توڑ دیا آپ سنہری جالیوں پر نظریں جمائے رکھنے اور اس

وقت کی کیفیت کو پنجابی شعر میں نہایت حسین انداز میں یوں بیان کرتے ہیں

جالی پاک تے نگاہواں جدوں ٹھہر جانیاں

لکھاں سامنے نظاریاں دے طور ہون گئے

ایک دو نہیں !

لکھاں سامنے نظاریاں دے طور ہوں گے  
مجھ کو درِ نبی کی زیارت نصیب ہو  
جالی کو چومنے کی سعادت نصیب ہو

حضراتِ گرامی ! جب عاشقانِ رسول مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور  
اُن کے دل کی اُمٹکیں یہی ہوتی ہیں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  
روضہ اطہر کی جالی مبارکہ کو چوم کر آنکھیں لگائی جائیں لیکن وہاں انتظامیہ  
سعودیہ حکومت کی ہے جنہوں نے صرف شرک شرک کا لفظ رٹا ہوا ہے۔ یہ  
لوگ عاشقانِ مصطفیٰ کو روکتے ہیں کہ جالی مقدسہ پر ہاتھ نہ لگاؤ اس کا احترام  
نہ کرو۔ حالانکہ اُس بارگاہ کے احترام کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا  
ہے کہ اللہ فرماتا ہے !

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ.

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے اور وہاں  
انتظامیہ کو یوں مخاطب کیا کہ !

جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانو !

اک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو

جب وہاں عاشق جالی مبارکہ کو چومتے ہیں تو وہاں کی پولیس

عاشقانِ رسول کو چھڑیاں مارتے تھے لیکن عاشق چھڑیوں سے ڈرنے والے

کہاں ہیں؟

حضرت علامہ صائم چشتی فرماتے ہیں !

میں پا کے کفنی مدینے جاواں

نہ نیر آواں کرو دُعاواں

میں سُنیاں ماہی دے درتے پھرے

لگا کے بیٹھے نے گونگے بہرے

اوہ چھڑیاں مارن میں جالی چماں

نہ لب ہٹاواں کرو دُعاواں

یہ تو دُعا کی بات تھی لیکن جب مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی اور وہاں

کے دربانوں نے آپ کو روکا تو آپ نے فرمایا !

جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانو !

اک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو

اور مدینہ طیبہ کے زائر کو کیا فرماتے ہیں !

جدوں سنہری جالی لاگے نُور جاویں

اتھرو اپنے رکھیں ورحدے چنکا رہن گام

اور پھر زائر کو کہتے ہیں !

تُو جس دم سر کو زائر جانبِ روضہ جھکائے گا

تُو جب روضے کی جالی تمام کر آنسو بہائے گا

ادب سے عرض کرنا چادرِ تطہیر کے صدقے  
 ہو حل صائم کی مشکل شبر و شبیر کے صدقے  
 حضرات گرامی ! عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔

عاشق جہاں بھی ہو اُس کے تصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس  
 کے تصور کا مرکز جلوہ گاہِ محبوب ہوتی ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ محفل میں موجود ہیں مقرر تقریر  
 میں جنت کی باتیں کر رہا ہے آپ فرماتے ہیں !

نہ چھیڑو واعظو! جنت کے لالہ زار کی باتیں  
 سناؤ آج بس مجھ کو دیارِ یار کی باتیں  
 تصور میں مرے رہنے بھی دو رنگیں فضاؤں کو  
 سنہری جالیوں کو گنبدِ خضریٰ کی چھاؤں کو  
 نہ اب صائم کو بہلاؤ مدینہ یاد آیا ہے

تو اسی مدینہ طیبہ کی بات کرنے محبوبِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے پاکستان کے معروف شاخوآن  
 جناب حافظ محمد حسین کسووال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں

مدینہ کی گلی

راشد صاحب کیا خوب آرزو کرتے ہیں !

گذر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں  
 تو ساری زندگی کردوں بسر طیبہ کی گلیوں میں  
 لیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس ارمان کے ساتھ  
 طیبہ کی گلیوں کی عظمت کیا خوب بیان فرماتے ہیں !

بہارِ خلد آئی سب کی سب طیبہ کی گلیوں میں  
 فرشتے بھی ہیں آتے باادب طیبہ کی گلیوں میں  
 اگر صائم کو پھر سرکار نے روضے پہ بلوایا  
 یہ بن کر خاک رہ جائے گا اب طیبہ کی گلیوں میں  
 اور انہیں طیبہ کی گلیوں کی بات جناب مقصود مدنی کرتے ہیں !

ہے ملتی ہر غمِ دل کی دوا طیبہ کی گلیوں میں  
 دُعا مانگو کہ لے جائے خدا طیبہ کی گلیوں میں  
 کوئی بھی مرض ہو اک پل میں ہے آرام مل جاتا  
 ہے ہر ذرے میں پیغامِ شفا طیبہ کی گلیوں میں  
 حضراتِ گرامی ! مدینہ طیبہ کی گلیوں کا تذکرہ کرنا اور مدینہ طیبہ  
 کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی صدا ہے۔

عزیزانِ گرامی !

مدینہ کی گلی کیا اس کو حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان  
 فرماتے ہیں لیکن پہلے جنت کی بھی بات کرتے ہیں !

یہ تو مانا کہ جنت ہے باغِ حسین  
 خوبصورت ہے سب خُلد کی سرزمین  
 حُسنِ جنت کو پر جب سمیٹا گیا  
 سرورِ انبیاء کی گلی بن گئی  
 اور پھر فرماتے ہیں !

مدینے کی گلیوں کا عالم نہ پوچھو  
 ہے جنت بھی جن پر فِدا اللہ اللہ  
 اس لئے کہ !

گلیاں چہ زلفاں دی مہک رہی ہوئی اے  
 طیبہ وچہ ہر اک چیز چچی ہوئی اے  
 طیبہ وچہ ہر پاسے ربّ دی تھلے اے  
 طیبہ وچہ اللہ دا حبیب اللہ اللہ اے  
 اس لئے کہتے ہیں !

ہے جنت بھی اُن پر فدا اللہ اللہ  
 اور پھر کہتے ہیں !

اُن کی گلیوں میں آنکھ روتی ہے  
 ہاتھ اٹھتے نہیں دُعا کے لئے

حضرات گرامی !

ہیں جنت سے افضل مدینے کی گلیاں

ہیں احسن و اجمل مدینے کی گلیاں

بھنور میں ہیں ساحل مدینے کی گلیاں

ہیں کامل و اکمل مدینے کی گلیاں

حضرات گرامی ! حقیقت ہے کہ !

طاہر و اطہر مدینے کی گلیاں

ہیں اطہر و اختر مدینے کی گلیاں

رحمت کی برسات ہے اُن کی گلیوں میں

اشکوں کی سوعات ہے اُن کی گلیوں میں

حیدر چمکا کیسا برا مقدر ہے

ہر دم لب پر نعت ہے اُن کی گلیوں میں

اور اقبال عظیم نے بھی کمال کر دیا اپنی دیوانگی اور وارثی کو اس طرح

بیان کیا کہ۔

ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے

اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے

اور محبت اللہ اطہر نے اپنے عشق کو یوں بیان کیا !

گلیوں میں پھرا کرتے گنبد کو ٹکا کرتے  
 اس شہر کی مٹی کو آنکھوں میں سجا لیتے  
 اظہر بھی جرے در کے کتوں میں سے ہو جاتا  
 گر اس کو مدینے کی گلیوں میں بٹھا دیتے

تو اب بارگاہِ سرورِ کونین میں ہدیہء عقیدت پیش کرنے کیلئے میں  
 ایک ایسی آواز کو پیش کرتا ہوں جسے ہم ٹی وی کے ذریعے عام طور پر سنتے  
 رہتے ہیں۔ جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے تو تشریف لاتے ہیں پاکپتن سے  
 تشریف لانے والے ہمارے مہمان ثناخوان جناب محمد شہباز قمر فریدی  
 صاحب۔

ان کی آواز میں ایسی لطافت ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا  
 جاسکتا۔

ان کے گلے میں ایسا سوز ہے جسے صرف محسوس کیا جاسکتا ہے۔  
 ان کے انداز میں ایسی وجاہت ہے جسے صرف سوچا جاسکتا ہے۔  
 ان کے پڑھنے میں ایسی روانی ہے جس کے ساتھ ہمارا عشق سفر کرتا  
 ہے اور منزل مطہر یعنی طیبہ پاک تک جایا جاسکتا ہے بشرطیکہ انسان اخلاص  
 کے ساتھ ان کے کلام کو عالمِ استغراق میں سماعت کرے۔

عزیزانِ گرامی ! شہباز قمر فریدی ایک اچھے ثناخوان بھی ہیں اور  
 ایک اچھے انسان بھی ہیں کیونکہ آپ مداحِ محبوبِ رحمان ہیں اور اس محفل کی

جان ہیں۔

☆ اعلیٰ ان کا انداز ہے۔

☆ آواز میں فراز ہے۔

☆ سوز ہے گداز ہے۔

☆ ہم کو اس پر ناز ہے۔

☆ ان کی آواز میں ساز ہے۔

☆ نام کے لحاظ سے محمد شہباز ہے۔

تشریف لاتے ہیں آپ کے نعرے کی گونج میں جناب شہباز قمر

فریدی صاحب آف پاکپتن۔

## طیبہ کی ہوا

حضرات گرامی! طیبہ کی ہوا کی بات ہو رہی تھی حضرت علامہ صائم

چشتی رحمۃ اللہ علیہ طیبہ مقدسہ کی ہوا کی بات کرتے ہیں کہ،

طیبہ کی ہوا طیبہ کی فضا سبحان اللہ سبحان اللہ

رحمت کی گھٹا پیغامِ شفا سبحان اللہ سبحان اللہ

اور پھر کہتے ہیں۔

مدینے کی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ

پیامِ سکون و شفا اللہ اللہ

اور مدینے کی ہوا کا جنت سے موازنہ کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ،

ہے جنت سے بڑھ کر ہوائے مدینہ

پیامِ شفا ہے فضائے مدینہ

فدا جان کر دے گا آمد یہ صائم

تو اک بار آجا صبا ئے مدینہ

ایک شاعر نے یوں کہا۔

طیبہ کی مست مست فضا سب سے خوب ہے

شہرِ نبی کی آب و ہوا سب سے خوب ہے

حضرت علامہ صائم چشتی بات ختم کرتے ہیں کہ،

شہرِ خوباں کی ہواؤں کو سلام

نور بر ساتی فضاؤں کو سلام

## طیبہ کے خار

### حضرات گرامی!

شناخو ان رسولِ نعت شریف میں مدینہ طیبہ کی بات کر رہے تھے اور

طیبہ کے خار کی بات کر رہے تھے۔ عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے انسان

کی فطرت ہے کی کانٹوں سے بچتا ہے کانٹوں کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن عاشق کی

نظر میں محبوب کی گلی کے کانٹے گل صد ہزار سے بہتر ہوتے ہیں۔

عزیزان گرامی قدر!

عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے خار کی بات کرتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں طیبہ کے خاروں کی بات صرف شاعر اپنی شاعری میں ہی نہیں کرتے۔ مدینہ الرسول میں تحریر ہے کہ منظور شاہ صاحب ساہیوال والے مدینہ طیبہ حاضری کیلئے گئے تو ان کے پاؤں میں طیبہ کا خار چبھ کر پاؤں کے اندر چلا گیا عقل کہتی ہے اس خار کو نکال دو

☆ عشق کہتا ہے۔ محبوب کی گلی کا خار ہے مت نکالنا

☆ عقل کہتی ہے بیمار ہو جاؤ گے

☆ عشق کہتا ہے محبوب کی نظروں میں شہکار ہو جاؤ گے

☆ عقل کہتی ہے تیرا پاؤں گل جائے گا

☆ عشق کہتا ہے ہر جرم دھل جائے گا

☆ عقل کہتی ہے عشق انجان ہے مجھ سے کام لو

☆ عشق کہتا ہے عقل نادان ہے میرا کہنا مانو

حضرات محترم! عقل کی ہار ہوئی عشق جیتا انہوں نے کاشا نہیں

نکالا اور پھر بشارت بھی ملی اور صحت بھی ملی۔ عشق والے تو پھولوں کو طیبہ کے

خاروں پر قربان کرتے ہیں۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عشق کی اس منزل پر

فائز تھے کہ جہاں صرف عقل سے فیصلہ کر لینا اور اس پر حد قبولیت لگا دینا

درست امر نہیں تھا یہ وہ منزل تھی جہاں پیمانے سے ناپا نہیں جاسکتا اور ترازو سے تولانا نہیں جاسکتا جی آپ نے نے طیبہ کے کانٹوں کی بات کی اور کمال کر دیا میں مدینہ طیبہ جاؤں اور مجھے وہاں پھولوں کے خار مل جائیں تو کیا کروں گا۔ سامعین غور فرمائیں اور اگر شعر پسند آئے تو دل کھول کر داد دیجئے گا۔

طیبہ کے خار یعنی کانٹے  
طیبہ کے خار چن کے سجاؤں گا آنکھ میں  
جب بھی مرے کریم نے در پر بلالیا

اور مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کمال کر دیا آپ کہتے ہیں !

مبارک رہے عندلیبو تمہیں گل  
ہمیں گل سے بہتر ہے خارِ مدینہ

اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حصہ اس کمال میں اس طرح ڈالا !

اے خارِ طیبہ دیکھ کر دامن نہ نیگ جائے  
یوں دل میں آکہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو

اور پھر ایک جگہ خارِ مدینہ کا ذکر کرتے ہیں !

پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں  
 دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں  
 حضراتِ محترم !

پھولوں سے بہتر ہیں خارِ مدینہ

زمینوں کے اختر ہیں خارِ مدینہ

مانندِ عنبر ہیں خارِ مدینہ

طاہر و اطہر ہیں خارِ مدینہ

طیبہ کے خار جن کے سجاؤں گا آنکھ میں

جب بھی مرے کریم نے دُز پر بلا لیا

## اہلِ مدینہ

مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی بڑی عظمت والے ہیں کہ ان کی

نسبت اس آستانے سے ہے کہ جہاں سے ہر ایک کو عظمت عطا ہوتی ہے

ان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ لوگ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے شہر کے باسی ہیں۔

☆ اہلِ مدینہ محبت والے ہیں۔

☆ اہلِ مدینہ پیار والے ہیں۔

☆ اہلِ مدینہ عظمت والے ہیں۔

☆ اہل مدینہ حضور کے ہمسائے ہیں۔

عزیزانِ گرامی! سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

من اخاف اهل المدينة ظالما اخافه الله الله

وكانت عليه لعنة الله وملائكة والناس

اجمعين .

جو اہل مدینہ کو ظلم سے ڈرائے گا اللہ اس کو ڈرائے گا اور

اس پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی تمام انسانوں کی

لعنت ہو۔

عزیزانِ گرامی! اہل مدینہ کے ہم پر حقوق ہیں جب زائرین حج

مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو وہاں اہل مدینہ سے بہت محبت کرتے ہیں اہل مدینہ

سے پیار کرنا اللہ والوں کی سنت سے ہر ایمان والا اہل مدینہ سے محبت کرتا

۶۔

پچھلے دور میں حاکم مدینہ جو دوسرے علاقے سے مدینہ گیا تھا وہ

ایک مدینہ کے باسی سے اُس کا جھگڑا ہو گیا مدینہ طیبہ کے رہنے والے نے

اس حاکم کے منہ پر تھپڑ مار دیا اس نے مرکز میں خط لکھا اور کہا میں اس کو سزا

دینا چاہتا ہوں مرکز سے جواب آیا کہ خبردار تو مدینہ پاک کے کسی شخص کو کچھ نہ

کہنا اگر مدنی نے تجھے طمانچہ مارا ہے تو اسے اپنی قسمت سمجھ کر خاموش ہو جا اور

مدنی کو مارنا تو درکنار اس کے بارے میں رنج بھی اپنے دل میں مت لانا۔

حضرات گرامی! اسی لئے عاشقانِ مدینہ اہل مدینہ سے محبت رکھتے ہیں کہ ان سے حضور علیہ السلام کو بھی محبت ہے اور عاشقانِ رسول اسی نسبت سے اہل مدینہ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔

شہرِ بطحا کے در و دیوار پر لاکھوں درود  
زیر سایہ رہنے والوں کی صداؤں کو سلام  
حضرات گرامی! مدینہ طیبہ اور وہاں کے ساکنان کی بات ہی نرالی  
ہے مدینہ شہر ہے

آقا کا نگر ہے۔

ایک یمنی انسان ہے۔

اولیس قرنی کے علاقے کا رہنے والا۔

مدینہ کا مہمان ہے۔

مدینہ میں کاروبار کرتا ہے۔

اُس نے سر پر ذودھ والا برتن اٹھایا ہوا ہے۔

ایک پاکستانی اس کے پاس گیا۔

بڑی محبت سے اسے سلام کیا

اس نے بڑی محبت سے سلام کا جواب دیا۔

پوچھا کیا کرتے ہو ؟

اُس نے کہا! دودھ بیچتا ہوں۔

میں نے کہا! دودھ تو ہمارے علاقے میں بھی بیچنے والے بیچتے ہیں

مگر ان کا انداز اور ہوتا ہے

وہ کہتے ہیں دودھ لے لو کوئی کہتا ہے خالص دودھ لے لو کوئی کہتا

ہے بغیر ملاوٹ کے دودھ لے لو۔

کوئی کہتا ہے اچھا دودھ لے لو کوئی کہتا ہے سستا دودھ لے لو لیکن

مدینہ طیبہ میں دودھ بیچنے والے کی بات ہی نرالی تھی۔

حضرات گرامی!

اس کی صدا سنو اور جھومو۔

وہ کہتا تھا۔

يا اهل المدينة انتم جوار رسول الله

اے مدینے والو! تم آقا کے ہمسائے ہو۔

اشرب الحليب صلوا على الحبيب

دودھ لو اور رسول اللہ پر درود پڑھو،

اشرب الحليب صلوا على الحبيب

دودھ لو اور درود پڑھو

سامعین گرامی! شاعر مدینہ پاک میں رہنے والوں کی بات کرتا

۔

ساکنانِ مدینہ پہ قربان میں اُن کو کیسا دیارِ عالی رتبہ ملا  
 اک طرف ہے بقیعِ اک طرف جالیاں پیارے آقا کا نورانی روضہ ملا  
 حضراتِ گرامی! اہل مدینہ پر تو اہل جنت بھی رشک کرتے ہیں۔

رشک آتا ہے فر دوس مینوں کو بھی اُن پر  
 رہتے ہیں جو خوش بخت ترے گھر کے برابر  
 حضراتِ گرامی! شہرِ مدینہ کی بات ہو تو ہر عاشق کی ایک ہی بات

ہے کہ،

خیر الوریٰ کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

نورِ خدا کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

تو اب میں نعتِ رسولِ معظمؐ، لئے دعوتِ نعتِ معظمؐ دیتا ہوں

جنابِ محمد معظمؐ علیٰ چشتی جو آف لاہور کو۔ کہ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت

بجھو سرورِ انبیاء پیش کریں۔

## شانِ مصطفیٰ اور قرآنِ پاک

حضراتِ گرامی! قرآن میں جا بجا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی توصیف و ثنا ہے ہر ہر ورق پر حضور کی نعت رقم ہے۔

اسی لئے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ سارا قرآن ہی حضور کی نعت

ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو شعر میں یوں بیان کرتے ہیں !

نعت ہے ساری نبی مختار دی  
ورقہ ورقہ پھول تو قرآن وا  
شعراے کرام جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعیتیں  
لکھتے ہیں تو حوالہ کے ساتھ قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں ہم محترم  
جناب سائیں محمد رفیق صاحب کا کلام سماعت کر رہے تھے اس میں بھی ایک  
شعر آیا جس میں شاعریوں بیان کرتا ہے

تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی  
واللیل مو طہ جبیں والشمس ہے چہرا تیرا  
علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں !

واللیل سچی گیسو ہیں خمدار نبی کے  
والفجر کی تفسیر ہیں رخسار نبی کے  
پھر کہتے ہیں !

قد جاء کم تاج ہے کملی والے کا  
عرش و فرش پہ راج ہے کمی والے کا  
حضرات گرامی !

☆ قرآن سرکار کی نعت ہے۔

- ☆ قرآن سرکار کی مدح ہے۔
- ☆ قرآن سرکار کے اوصافِ جمیلہ کے بیان کا مجموعہ ہے۔
- ☆ قرآن سرکار مدینہ کی نعتوں کا باب ہے۔
- ☆ قرآن حضور کی مدحت کا بیان ہے۔
- ☆ قرآن حضور کی اداؤں کا ذکر ہے۔
- ☆ قرآن حضور اقدس کی عطاؤں کی بات کرتا ہے۔
- ☆ قرآن سرکار کی رحمت کا گواہ ہے۔
- ☆ قرآن حضور کی رفعت کا گواہ ہے۔
- ☆ قرآن حضور کی عظمت کا گواہ ہے۔
- ☆ قرآن حضور کی طہارت کا گواہ ہے۔

حضرات گرامی !

یہ جو قرآن ہے نعتِ محبوب کا دیوان ہے  
 ربِّ کوئین نے قرآن ہر سورۃ کو  
 نعتِ محبوب کا دیوان بنا رکھا ہے  
 قرآن پاک کا بنظرِ عمیق مطالعہ کریں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ  
 اللہ تعالیٰ جلّ شانہ نے قرآن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  
 عظمت کے اظہار کیلئے نازل فرمایا ہے  
 حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !

پتہ اے وسیا رَفَعْنَا دِي پاك آيت نے  
 ہے شان ہندا ودھیرا مدینے والے وا  
 اور سرکار کے چہرہ اطہر ذکر کرتے اور اپنی التجاء پیش کرتے ہیں۔  
 تیرے وَالْفَجْرِ چہرے توں میں صدقے  
 کدی سفنے دے وچ مکھڑا دکھادے  
 اور ان کے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہونٹوں کی بات شعر میں یوں بیان  
 کی۔

ہونٹ ان کے ہیں بولتا ہے خدا  
 بات حق کی ہے گویا کلام آپ کا  
 اور حسن محبوب کو آیات قرآنیہ کے حوالہ سے علامہ صائم چشتی رحمۃ  
 اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں۔

والفجر جبیں

والشمس عارض

پر کیف نظر

گیسوطہ

والنجم دی مانگ

اے زلفاں وچ

یسیں لقب

فُشْرَحِ سِينَهُ

ابرو نے قابِ قوسینِ خمدارِ محمدِ عربی دے

ہتھ پاکِ یدِ اللہ

لَبِ یُو حِی

مازاغ دے اکھیاں

وچ ڈورے

چن توڑے

موڑے سورج نوں

رکھ نال اشارے

دے تورے

فعلین گئے سی عرشاں توں ننگھ پارِ محمدِ عربی دے

حضراتِ گرامی!

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پوچھنی ہے تو قرآن

پاک سے پوچھو۔

نہ پوچھو فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو

عظمتِ شہِ ابرار کی قرآن سے پوچھو

اور پھر قرآن کے حوالہ سے عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

بات یوں بھی کریں

وَحْيٌ يُوحَىٰ كَهَذَا كَهَذَا فِي رُبِّكَ نَزَلَ فِي رُبِّكَ قُرْآنٌ مُّقَدَّسٌ دَسَّ  
 ہر گل ذمے اپنے لائی میرے کھلی والے وی  
 جس محبوب کی بات ہی خدا ہی بات ہو اس کی ذات کی عظمت بیان  
 کرنے کی مجال انسان تو انسان فرشتوں میں بھی نہیں ہے  
 عزیزانِ گرامی! ہم جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ  
 اقدس میں درود و سلام کے ہدیے پیش کرتے ہیں یا ہم نعتیں پڑھتے ہیں تو یہ  
 اس لئے نہیں کہ انہیں ہماری نعتوں کی ضرورت ہے ہرگز نہیں بلکہ سرکارِ کا ذکر  
 ہم اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ذکر ہمیں برکتیں اور نور عطا کرتا ہے سرکارِ کا ذکر  
 ہمارا محتاج نہیں کیونکہ یہ تو وہ ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔

ہم درود پڑھتے ہیں! اس لئے نہیں کہ انہیں ضرورت ہے بلکہ اس  
 لئے کہ درود پاک کے صدقہ سے ہمیں دُنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعتیں عطا فرماتا  
 ہے اور حدیثِ پاک کے مطابق بروزِ حشر بھی درود پاک کے صدقے سے  
 مسلمانوں کو نجات حاصل ہوگی۔

## تعارف

تو اب میں اُس بارگاہِ اقدس میں ہدیہ سلام عقیدت پیش کرنے  
 کے لئے ایک نہایت معروف ثنا خوان کو پیش کرتا ہوں جن کے نام سے اور  
 جن کی آواز سے ہم سب پہلے ہی واقف ہیں میرا خیال تو تھا کہ ان کو بعد میں

وقت دیا جاتا لیکن چونکہ انہوں نے اگلی محفل میں جانا ہے اس لئے اُن کو بلا تا  
خیر دعوت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں۔

محفل کی جان

عظیم ثنا خوان

سوز کی برہان

جناب اکرم حسان کہ تشریف لا کر جناب سرکارِ مدینہ علیہ السلام کی

بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کیجئے جناب محمد اکرم حسان صاحب،

**مُعْجَزَةُ مُصْطَفَى**

حضراتِ گرامی! مُعْجَزَةُ رَسُولِ كِي بَاتِ هُوْرِهِ تَحْمِي مُعْجَزَةُ كَسِي كِهْتِي هِي

مُعْجَزَةُ كِهْتِي هِي جُو عَقْل كُو عَاجِز كُرْدِي جِهَآ عَقْل كِي پَر وَا ز خْتَم هُو جَاتِي هِي

وَهَا مُعْجَزِي كِي اِبْتِدَآءِ هُوْتِي هِي حَضْرَا قَدْسِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُو سَب سِي

زِيَادِه مُعْجَزَاتِ عَطَا هُوْنِي هِي۔

ہر نبی کو معجزہ ملا۔

ہر رسول کو معجزہ ملا۔

ہر پیغمبر کو معجزہ ملا

کسی کو ایک مُعْجَزَةُ مَلَا

کسی کو دو مُعْجَزَاتُ مَلَا

کسی کو تین معجزے ملے

ہر نبی کو معجزے ملے مگر گنتی کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دو معجزات نہیں دیئے بلکہ آپ کو ان گنت معجزات عطا کئے گئے بلکہ آپ کی ہر ہر ادا میں معجزہ رکھا گیا مسئلہ یہ ہے یہ جب نبی معجزہ دکھاتا ہے تو اُس کے درجات بلند ہوتے ہیں جب ولی کرامت دکھاتا ہے تو اُس کا درجہ کم کر دیا جاتا ہے نبی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے نبی کو حکم ہے کہ معجزہ دکھاؤ ولی کو حکم ہے کرامت چھپاؤ اسی لئے ولی کرامت چھپاتے رہے اشد ضرورت کے تحت کرامت دکھائی گئیں مگر نبی معجزہ چھپاتے نہیں بلکہ معجزات دکھاتے رہے خواہ کوئی بعد میں بھی کلمہ نہ پڑھے کیونکہ معجزہ وجہ بلندی درجات ہوتا ہے چونکہ سب سے زیادہ بلندیاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں ہیں اس لئے سب سے زیادہ معجزات بھی آپ ہی کو عطا کئے گئے اور سب سے زیادہ معجزات آپ نے دکھائے،

حضرات گرامی! یہاں ایک لطیف نکتہ عرض کرتا ہوں۔

**عقل اور مقامِ رسول**

بعض لوگ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و عظمت کو اپنی

عقل کے پیمانے سے ناپتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں۔

اپنی عقل سے مُصطفیٰ کے مقام کو ناپنے کی کوشش نہ کرو۔  
 تمہاری عقلیں چھوٹی ہیں مُصطفیٰ کا مقام بڑا ہے۔  
 تمہاری سوچ محدود ہے مُصطفیٰ کا مقام لامحدود ہے۔  
 تمہاری فہم کی حد ہے مُصطفیٰ کی شان بے حد ہے۔  
 تمہارا ادراک وہم تمہیں گمراہی کی طرف لے جاسکتا ہے مگر مُصطفیٰ کے  
 مقام تمہاری رسائی نہیں وہ سکتی۔

اس لئے کہ! لیکن کیا ہے! مُصطفیٰ کا صفاتی نام ہے۔

ظہ کیا ہے! مُصطفیٰ کا صفاتی نام ہے۔

حکم کیا ہے! مُصطفیٰ کا صفاتی نام ہے۔

کیا یسین کا مطلب جانتے ہو؟

کیا ظہ کا مطلب جانتے ہو؟

کیا حکم کا مطلب جانتے ہو؟

نہیں! کوئی مولوی ان کے معنی سے واقف نہیں۔

کوئی مُحدث ان کے معنی سے واقف نہیں۔

کوئی مفسر ان کے معنی سے واقف نہیں۔

کوئی لغات والا ان کے معنی سے واقف نہیں۔

کوئی عالم ان کے معنی سے واقف نہیں۔

کوئی شارح ان کے معنی سے واقف نہیں۔

ارے جس ہستی کے صفاتی نام تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتے وہ ذات  
تمہاری سمجھ میں کیسے آسکتی ہے اس لئے کہتا ہوں ان کو سوچومت انہیں مان لو  
مان لینے میں ہی مراد ہے اور بیڑا پار ہے ان سے عشق کرو عقل سے سوچو  
مت۔

☆ جس نے عقل سے سوچا ابو جہل بن گیا۔

☆ جس نے عشق سے مانا صدیق اکبر بن گیا۔

☆ جس نے عقل سے سوچا ابولہب بن گیا،

☆ جس نے عشق سے مانا فاروق اعظم بن گیا۔

☆ جس نے عقل سے سوچا عتبہ بن گیا۔

☆ جس نے عشق سے مانا عثمان غنی بن گیا۔

☆ جس نے عقل سے سوچا شیبہ بن گیا۔

☆ جس نے عشق سے مانا ابوذر غفاری بن گیا۔

☆ جس نے عقل سے سوچا امیہ بن خلف بن گیا۔

☆ جس نے عشق سے مانا حضرت بلال بن گیا۔

☆ جس نے عقل سے سوچا وہ کافر رہا۔

☆ جس نے عشق سے مانا وہ مومن بن گیا۔

ایمان والے اُن کو مانتے ہیں اُن کے مقام کو سوچتے نہیں۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مقام اُن کا کوئی سوچے تو کیسے ؟  
خرد کی حد میں وہ آتے کہاں ہیں ؟  
اور ایک جگہ کہتے ہیں۔

وہی اول ہیں آخر بھی وہی ہیں  
وہی ظاہر وہی سر نہاں ہیں  
سمو عقل کے دامن کو صائم  
وہ حد عقل میں آتے کہاں ہیں

یہی نام ہے جب نام سمجھ میں نہیں آتا  
مُعجزہ اُن کا کام ہے تو کام کیسے سمجھ میں آسکتا ہے جب نام نہیں  
سمجھے تو ذات کو کیا سمجھو گے

تو میں عرض کر رہا تھا معجزے کے بارے میں۔  
دکھائے معجزے ایسے حیران ہو گئے مگر  
وہ کرنا چاند کو دو پارا ادنیٰ کام تھا تیرا  
اور پھر!

سُورج اُٹھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک  
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی  
حضرات گرامی! ہمارے آقائے اتنے معجزات دکھائے جن کو شمار  
بھی نہیں کیا جاسکتا آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔

☆ آپ نے گونگے کو زبان عطا کر دی۔

☆ آپ نے درختوں کو زبان دے دی۔

☆ آپ نے پتھروں کو زبان دے دی۔

☆ آپ نے سورج کو واپس فرمایا۔

☆ آپ نے مُردہ کو زندہ کیا۔

☆ آپ نے کنکروں سے باتیں کروائی۔

☆ آپ نے گوشت سے باتیں کروائیں۔

☆ آپ نے کھارے کنویں کو میٹھا کر دیا۔

☆ آپ نے لکڑی کو روشن کر دیا۔

☆ آپ نے جانوروں کو زبان دے دی۔

آپ کے معجزات کو مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا

تیری پہ بیت تھی کہ ہر بُت تھر تھرا کر رہ گیا

میں جڑے ہاتھوں کے صدقے کسی تھیں وہ کنکریاں

جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ بھر گیا

پھر تخیل میں حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہی کہ !

کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامِ شیر

جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا

اور پھر معجزات کا ذکر ایک اور نعتیہ غزل میں کرتے ہیں۔

اپنے مولیٰ کی ہے بس شان عظیم  
 جانور بھی کریں جن کی تعظیم  
 سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم  
 پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں  
 ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد  
 یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد  
 اسی در پہ شترانِ ناشاد  
 گلہ زنج و عنا کرتے ہیں  
 انگلیاں پائیں وہ پیاری  
 جن سے دریائے کرم ہے جاری  
 جوش پر آتی ہے جب غم خواری  
 تشنہ سیراب ہوا کرتے ہیں

اور عبدالستار نیازی؟..... سرکار کے پتھروں سے کلمہ پڑھانے کے

معجزے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مخاطب بھی پتھر ہی ہیں آپ  
 کہتے ہیں،

پتھر و تم تو ہو پتھر مگر آقا مرے  
 تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں

حضور کے معجزات کی بات کریں تو ختم ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ اُن کی  
توہر ہر ادا بھی معجزہ ہی ہے۔

☆ میرے آقا کی ہر اک ادا معجزہ

☆ اُن کے ہاتھوں سے جاری ہوا معجزہ

☆ اُن کی دنیا میں جلوہ گری معجزہ

☆ اُن کی زہرا دلیل اور علی معجزہ

☆ اُن کی رحمت کی اک اک نگاہ معجزہ

☆ اُن کا چہرہ اور زلفِ سیاہ معجزہ

☆ اُن پہ شجر و حجر کا سلام معجزہ

☆ اُن کا دل معجزہ اُن کا نام معجزہ

☆ اُن کی صبح معجزہ اُن کی شام معجزہ

☆ اُن سے پتھروں کا کرنا کلام معجزہ

☆ اُن کا گھر معجزہ اُن کا در معجزہ

☆ اُن کا پیارا سا بطحا نگر معجزہ

☆ شب کی معراج اُن کا سفر معجزہ

جب وہ سوتے ہیں دل اُن کا سوتا نہیں

کن کی کنجی تو ہے اُن کی پیار زباں

حُسنِ یوسف کہاں حُسنِ آقا کہاں

☆ اُن کا چہرہ پیارا مٹھی معجزہ

☆ اُن کی زلفِ منبر بھی معجزہ

اک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو

تو اگر جلوہ کرے کون تماشا ہی ہو

حضرات گرامی! اب نعت دیتا ہوں کراچی سے تشریف لائے

ہوئے مہمان ثناخوان جناب محترم محمد ڈاکٹر ثناء احمد معرفانی صاحب اللہ تعالیٰ

نے ان پر خصوصی نوازشیں فرمائی ہیں اور سرکارِ مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

خصوصی عنایات ہیں ان پر کہ یہ آقا کی ثناخوانی ملک کے کوچہ کوچہ میں کر رہے

ہیں۔

حضرات گرامی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ثناخوانی رسول میں خود کو

وقف کر دیتا بھی عطا کے بغیر نہیں ہوتا تو میں ڈاکٹر ثناء معرفانی صاحب کو ان

الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔

من سب کے چکاتا جا

اُن کی نعت سُناتا جا

واذ بھی ہم سے پاتا جا

اپنی دید کراتا جا

پیاری سی آواز کے صدقے

میٹھے سے انداز کے صدقے

سب کو نعت سنا تا جا

ڈاکٹر محمد شہار احمد معرفانی، ٹی وی آرٹسٹ.....

## عطائے مصطفیٰ

حضرات گرامی! محترم شاخو ان رسول نعت پڑھ رہے تھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی تھی اور ان کی عطا کی بات ہو رہی تھی۔

☆ ان کے جُود کی بات ہو رہی تھی۔

☆ ان کی سخا کی بات ہو رہی تھی۔

☆ ان کی عطا کی بات ہو رہی تھی۔

☆ ان کے کرم کی بات ہو رہی تھی۔

تو عطائے مصطفیٰ پر نعتیہ اشعار میں بھی پیش کرتا ہوں حضرت علامہ

صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

کملی والے میں قرباں تری شان پر سب کی بگڑی بنا تیرا کام ہے

ٹھو کریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے

حضرات گرامی! ان کے جُود و سخا کی کیا بات ہے ان کا دربار تو ایسا

گہر بار ہے جہاں مہکتے کو مانگنے سے پہلے بھیک ملتی ہے حسن رضا بریلوی اس

لئے کہتے ہیں۔

کبھی ایسا نہ ہوا اُن کے کرم کے صدقے  
ہاتھ کے پھیننے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو  
اور یہی بات ہے کہ،

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا  
دُر بے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں  
حضور اقدس کے در اقدس سے ہر ایک کو ملتا ہے۔

☆ انبیاء بھی اس در کے منگتے ہیں۔

☆ صحابہ بھی اس در کے منگتے ہیں۔

☆ اولیاء بھی اس در کے منگتے ہیں۔

☆ اصفیاء بھی اس در کے منگتے ہیں۔

☆ اتقیاء بھی اس در کے منگتے ہیں۔

حضرات گرامی! صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تو آپ کی  
بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔

اگر مصیبت آتی تو نجات کے لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے

☆ اگر مال کی ضرورت ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے۔

☆ اگر اولاد کی محرومی ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے۔

☆ اگر پریشانی ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے۔

☆ اگر غلطی ہو جاتی تو معافی کے لئے آپ کے در پہ آتے۔

☆ اگر جرم سرزد ہو جاتا تو بھی آپ کے در پہ آتے  
 ☆ اگر کھانا نہیں ملا تو بھی آپ کے در پہ آتے۔  
 ☆ اگر پانی نہ ملا تو بھی آپ کے در پہ آتے۔  
 ☆ اگر کس چیز کی ضرورت ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے۔  
 ☆ اگر بیمار ہوتے تو بھی آپ کے در پہ آتے۔  
 ☆ اگر لاچار ہوتے تو بھی آپ کے در پہ آتے۔  
 ☆ اگر ناشاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہ آتے۔  
 انہیں علم تھا! نہیں بلکہ اُن کا ایمان تھا کہ آپ کے درِ اقدس سے ہر  
 سائل کو ملتا ہے آپ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتے۔

اُن کا ایمان تھا۔

☆ نعمتیں ملتی ہیں تو اسی در پہ  
 ☆ رحمتیں ملتیں ہیں تو اسی در پہ  
 ☆ برکتیں ملتیں ہیں تو اسی در پہ  
 ☆ راحتیں ملتی ہیں تو اسی در پہ  
 ☆ کھانا ملتا ہے تو اسی در پہ  
 ☆ مشروب ملتا ہے تو اسی در پہ  
 ☆ دُنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو اسی در پہ  
 ☆ جنت کی بشارتیں ملتی ہیں تو اسی در پہ

☆ دین ملتا ہے تو اسی در سے

☆ اسلام ملتا ہے تو اسی در سے

☆ قرآن ملا ہے تو اسی در سے

نہیں نہیں! بلکہ رحمان ملا ہے تو اسی در سے

بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانگنے کا سلیقہ

ہم میں نہیں ہے آقائے دو عالم تو مُعْطٰی ہیں حضور تو عطا کرنے والے ہیں۔

☆ حضور تو فریاد سننے والے ہیں۔

☆ حضور تو فریاد رس ہیں

☆ حضور تو کرم فرمانے والے ہیں۔

☆ حضور تو رحم کرنے والے ہیں۔

☆ حضور تو عطا کرنے والے ہیں۔

مجھ کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ

وہ تو نہیں ہیں تھکتے امداد کرتے کرتے

اور ایک جگہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم بارِ درِ اقدس کی

سلامتی کے لئے دُعائیہ انداز اپناتے ہیں کہ،

سلامت رہے درِ برے مصطفیٰ کا زمانے کو خیرات ملتی رہے گی

سدا بھیک صائم درِ پنجتن سے بقیعانِ سادات ملتی رہے گی

حسن رضا بریلوی یوں بیان کرتے ہیں !

عجب کرم ہے والاتار کرتے ہیں

کہ نا اُمیدوں کو اُمید وار کرتے ہیں

حسن کی جان ہو اُس وسعتِ کرم پہ نثار

کہ اک جہان کو اُمید وار کرتے ہیں

اور اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی یوں بیان کرتے ہیں !

واہ کیا جو دو کرم ہے ہے بطحا تیرا

نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

اور آخر پر ایک خوبصورت پنجابی قطعہ پیش کرتا ہوں کہ !

دو جہاناں دا سہارا آپ نے

رب عالم دا نظارا آپ نے

سارے صائم ورگے بخشے جاوے

اک جدوں کتیا اشارا آپ نے

## سرکار کی خوشبو

حضرات گرامی! خوشبوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو

رہی تھی اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نعت ہو رہی اور

حقیقت ہے کہ ہم پہ راضی خدا کی ذات ہو رہی تھی اس لئے کہ اگر سرکارِ مدینہ

علیہ السلام کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کو منور کریں گے تو یقیناً ہمارا رب ہم پہ  
راضی ہو جائے گا۔

نعت شریف میں شاخوآن رسول نے یہ شعر پڑھا۔

جس میں خوشبو ہو اُن کی زلفوں کی

میں تڑپتا ہوں اس ہوا کے لئے

عزیزانِ گرامی! سرکارِ دو عالم کی خوشبو مبارک سے مدینہ منورہ مہک

رہا ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ لکھتے ہیں۔

سرکار کی زلفوں کی آقا کے پسینے کی

خوشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں

اور ڈاکٹر حسن رضوی جو کہ لاہور کے باسی ہیں اپنا تخیل پیش کرتے

ہیں اگر شعر پسند آئے تو بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ فرماتے ہیں!

مہک اُن کی ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے

مدینے کی ہوا لاہور میں محسوس ہوتی ہے

جو خوشبو آپ کے قدموں کی مٹی سے عبارت ہے

کہاں ایسی کسی بھی اور میں محسوس ہوتی ہے

اور جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں!

ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں

جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں

اب نعت کہنے کو، آقا کی بات کہنے کو! تشریف لاتے ہیں معروف  
شناخوان رسول جناب احمد صغیر آسد صاحب،

## مُوئے مبارک کی زیارت

حضرات گرامی! آخری شناخوان کو پیش کرنے سے پہلے سرکارِ  
مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکاتِ عالیہ کی زیارت کروائی جائے گی اور  
آج ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مُوئے مبارک کی زیارت  
کریں گے۔

تمام حضرات نہایت باادب ہو کر اپنے من کو اُجال کر مُوئے مبارک  
کی زیارت کریں میں آپ کے سامنے مُوئے مبارک کے بارے میں حدیث  
پاک پیش کرتا ہوں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے  
میرے بال مبارک کی بے حرمتی کی اس نے میری بے حرمتی کی۔

حضرات گرامی! عاشقانِ رسول سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
کے مُوئے مبارک کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔

مُوئے مبارک پر ہماری جانیں نثار ہو جائیں

حضرات گرامی! آج ہم مُوئے مبارک کی زیارت سے فیضیاب

ہوں گے اپنے دلوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن بناتے ہوئے  
مُوئے مبارک کی زیارت کریں۔

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ خالد بن ولید سیف اللہ

بن گئے۔

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کے صدقے سے مسلمانوں کو فتح

حاصل ہوتی ہے۔

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ سے سے رحمتوں کی

برسات ہوتی ہے۔

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ سے بہاروں پر بہاریں

آتی ہیں۔

یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ سے کرم کی بارش ہوتی ہے۔

یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کی تعظیم فرشتے بھی کرتے ہیں۔

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کی تکریم انبیاء بھی کرتے ہیں۔

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کو تسلیم صحابہ پیش کرتے ہیں۔

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن پر دونوں جہان قربان ہیں۔

☆ یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علامہ صائم

چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

واہ سُبحان حبیبِ مرے نے جدوں سچائیاں زلفاں

اُس دے پیراں دے وچہ خوراں آن وچھائیاں زلفاں

میںہ نانی دا ور ہیا سوہنے جد لہریاں زلفاں  
 چہ گئے دل عشاق دے صائم جد کترایاں زلفاں  
 یہ وہ مٹوئے مبارکہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عبیدہ رضی  
 اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دُنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میرے پاس  
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مٹوئے مبارک ہو۔

حضرات گرامی ! حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک  
 مرتبہ صحابہ کرام کو اپنے مٹوئے مبارک تقسیم کئے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ  
 علیہم اجمعین کی وراثت میں وہ مٹوئے مبارک چلتے رہے اور یوں آپ صلی  
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مٹوئے مبارک دُنیا کے مختلف ممالک میں پہنچے۔ الحمد للہ  
 پاکستان میں بھی مٹوئے مبارک موجود ہیں انہیں میں سے ایک مٹوئے مبارک  
 جناب محمد مقصود مدنی صاحب لیکر آئے ہیں۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم کے مٹوئے مبارک کا اس محفل میں جلوہ گر ہونا ہمارے لئے بے حد فرحت  
 کا باعث ہے ہم لوگ قسمت والے ہیں کہ اپنے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مٹوئے مبارک کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔

حضرات گرامی ! جب مٹوئے مبارک کا وہ بکس جس میں مٹوئے  
 مبارک محفوظ ہے اور اُس مٹوئے مبارک نے بکس کو سجا رکھا ہے اس محفل میں  
 جلوہ گر ہو تو تمام حضرات لبوں پر درودِ پاک کے نعمات سجائیں اور سب لوگ  
 بلند سے اپنے آقا و مولیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

ذات پاک پر درود پاک بھیجیں اور اپنی دُعاؤں اور التجاؤں کو لبوں پر سجالیں۔  
 نعرۂ تکبیر..... نعرۂ رسالت..... نعرۂ رسالت.....

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

## سرکارِ مدینہ کا پسینہ مبارک

حضرات گرامی ! اس کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 جیسا کوئی نہیں اس لئے کہ آپ کا جسدِ اطہر بھی نور سے معمور ہے۔  
 غور فرمائیں کہ ! ہمیں بھی پسینہ آتا ہے۔

سرکارِ مدینہ کو بھی پسینہ آیا۔ مگر ہمارے اور اُن کے پسینے میں فرق ہے

پسینہ اُن کا بھی ہے۔      پسینہ ہمارا بھی ہے۔

اُن کا پسینہ پاک ہے۔      ہمارا پسینہ ناپاک ہے۔

اُن کا پسینہ عظمت والا      ہمارا پسینہ خفت والا

اُن کا پسینہ خوشبودار      ہمارا پسینہ بدبودار

اُن کا پسینہ شفا ہی شفا      ہمارا پسینہ وبا ہی وبا

☆ اُن کا پسینہ اعلیٰ ہے      ہمارا پسینہ ادنیٰ ہے۔

اُن کا پسینہ باکمال      ہمارا پسینہ بے حال

حضرات گرامی ! ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اُن کے

پسینے کی طرف لوگ دوڑیں اور ہمارے پسینے کی طرف سے لوگ دوڑیں۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار اور پُرکشش تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو ایک شیشی میں جمع کر لیا۔ کیوں؟

اس لئے کہ! آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ مبارک آتا تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی حضرت ساجد صاحب لکھتے ہیں!

کستوری و گلاب میں یہ نکلتی ہیں کہاں

آقا یہ ساری تیرے پسینے کی بات ہے

ایسا معطر کر دینے والا پسینہ مبارک کہ جس پر عطر ماحول گلشن کو میسر نہیں،

جو خوشبو کلیوں کی مالا میں نہیں۔

☆ جو خوشبو عطر گلاب میں نہیں۔

☆ جو خوشبو نانے میں نہیں۔

☆ جو خوشبو عنبر میں نہیں۔

☆ جو خوشبو صحن گلشن میں نہیں۔

☆ جو خوشبو پھولوں کے آنگن میں نہیں۔

بلکہ یہ کہہ دو کہ! جو خوشبو جنت نگر میں نہیں اور جو خوشبو جبریل

کے پر میں نہیں۔

گلتانوں کو بھی جو میسر نہیں  
 ایسی خوشبوئیں اُن کے پسینے میں ہیں  
 اس لئے کہ پسینہء اطہر کو اپنی دولتِ مُعطر سمجھ کر صحابہ کرام اپنے  
 کپڑوں پر ملتے ہیں مولانا حسن رضا بریلویؒ کہتے ہیں !  
 واہ اے عطرِ خدا ساز مہکنا تیرا  
 خُبرو مَلحے ہیں کپڑوں پہ پسینہ تیرا  
 اور حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ رسالت میں  
 مودب ہو کر نعتِ رسول پیش کرتے ہیں اور سرکارِ مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی  
 بارگاہِ اقدس میں ہدیہ نعت یوں پیش کرتے ہیں کہ

مُشکِ عنبر سے اعلیٰ، بوئے جنت سے بالا آقا ہے پسینہ تیرا۔  
 ہو مُشکِ و عنبر کہ بوئے جنت نظر میں اُس کی ہے بے حقیقت  
 ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رشکِ گلاب تیرا  
 حضراتِ محترم ! سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ  
 مبارک کی خوشبوؤں سے سے تو آج بھی بطحا نگر مہک رہا ہے۔ آج بھی مدینہ  
 جائیں اور وہاں کی فضا کو سونگھیں تو خوشبوئے پسینہ آج بھی موجود ہے  
 حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس احساس کو شعر میں بیان کرتے ہیں  
 سرکار کی زلفوں کی آقا کے پسینے کی  
 خوشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں

اور اس محفل کے حوالہ سے شعر عرض کر کے اگلے ثناخوان کو دعوت

دیتا ہوں۔

اے صبا! میرے محبوب کے پاس جا

اُن کے وائیل گیسو ذرا چوم آ

دیر ہو اُن کے تشریف لانے میں گر

اُن کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا

تو تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ سید

منظور الکوین صاحب کہ جن کی آواز بے مثل ہے اور انداز ایسا بے مثال ہے

کہ پاکستان کے تقریباً تمام ثناخوان رسول آپ کے فن اور آواز و انداز کی وجہ

سے اُستاد کا درجہ دیتے ہیں۔

ان کی آواز میں ایک گرام ہے جو کسی اچھی آواز میں ہونا چاہئے۔

ان کی آواز میں وہ چاشنی ہے جو ایک بہترین آواز کی ضرورت

ہے۔

ان کی آواز میں ایک وجاہت ہے جو خوبصورت آواز میں ہونا

ضروری ہے۔

ان کی آواز میں ایک گداز ہے جو اچھی آواز میں شامل ہوتا ہے۔

اگر ان کی آواز کو ایک مکمل اور بھرپور آواز کہا جائے تو بے جا نہ ہو

اور آواز کے بہترین ہونے کے ساتھ ان کی سُراور نے پر کمال کا ہونا سونے

پر سہاگہ کے مترادف ہے۔

حضرات گرامی ! میں اپنے اس محبوب ثناخوان کو دعوتِ اس  
انداز سے دوں گا کہ یہ ثناخوان آلِ سرورِ کونین ہے۔

موردِ حدیث الثقلین ہے۔

ثناخوانانِ رسول کا نورِ عین ہے۔

نام کے لحاظ سے سید منظور الکونین ہے۔

تشریف لاتے ہیں راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے

مہمان ثناخوان جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب.....



چشمِ کرم

حضرات گرامی !

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمِ کرم کی کیا بات ہے۔

جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا

اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

آپ کی نگاہِ کرم جس پر برسی اُس کا بیڑا پار ہو گیا حضرت علامہ صائم

چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی نظرِ کرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے!

جہاں تے پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں

- مدنی کریم دیاں جگ دے طیب دیاں  
 حضرت اولیس بن گئے حضرت بلال بن گئے  
 ☆ اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام  
 ☆ وہ نگاہِ کرم جس نے عرب کے بدوؤں کو بادشاہ بنا دیا۔  
 ☆ وہ نگاہِ کرم جس پر پڑی۔  
 ☆ بے دم کو دم دے دیا۔  
 ☆ بے شعور کو شعور دے دیا۔  
 ☆ بے چارے کا چارہ کر دیا۔  
 ☆ بے نور کو نور دے دیا۔  
 ☆ بے سُرور کو سُرور دے دیا۔  
 ☆ غلام کو سردار کر دیا۔  
 ☆ بے فن کو فن کار کر دیا۔  
 ☆ بے آسرا کو شہکار کر دیا۔  
 ☆ بے دل کو دلدار کر دیا۔

☆ اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام  
 اگر ڈرتے پر نگاہوئی تو اُسے چاند سے بھی روشن کر دیا۔  
 سب قدروی لوے پناہ آ کے میری سوہنے دی زلف سیاہ تھلے  
 ڈرتے سورج توں دودھ کے چمک اُٹھے کملی والے دی آ کے نگاہ تھلے

☆ اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام  
میرے نبی دی ہوئی نگاہ جس دم آکے منکے کچ دے سچے گہر ہو گئے  
قطرے بنے دریا آفتابِ ذرے آتے خار جو سن گل تر ہو گئے  
پانی رحمتاں والا سی چھڑ کیا جد سکے ہوئے وی پھل دار شجر ہو گئے  
کیڑی کیڑی میں بھلا تعریف دساں بھسن بے زر جو ابو ذر ہو گئے

☆ اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

جس نے ذروں کو زر کر دیا۔

جس نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا

جس نے قطروں کو دیکھا شہر کر دیا

جس نے جہشی کو رھک قمر کر دیا

☆ اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

حضراتِ گرامی! آپ کی نظرِ عنایت سے ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا

واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے خوب شعر لکھا!

دین کیا ہے تیری اُلفت کے سوا دین کا بس اک یہی معیار ہے

تو نظر پھیرے تو طوفاں زندگی تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے

اور حضرت علامہ صائم چشتی علیہ الرحمۃ نے سرکار کی نظرِ کمال کا کمال

بڑے ہی با کمال انداز میں بیان کیا کہ!

ہوں بلالؓ و سلماںؓ یا حارثہؓ یا علیؓ عمر یا خبیبؓ ہوں

جری اک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سب کے بدل گئے  
پھر کیوں نہ کہوں !

☆ اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمِ کرم صرف انسانوں پر ہی  
نہیں بلکہ فرشتوں پر بھی ہوئی۔ معراج کی رات فرشتوں کو اپنی زیارت سے  
مشرف بھی فرمایا اور ان پر نظرِ کرم بھی فرمائی۔ معراج کی رات ہے ستارے  
ڈوب کر ابھر رہے ہیں منظر کیا ہے ؟

خُوراں سہرے گوندیاں آیاں

زُلفاں رستیاں وچہ وچھائیاں

کستوری دے حُلّے آون

خُشبوواں دے بُلے آون

تارے ڈُب ڈُب تر دے جاندے

قُدسی سجدے کر دے جاندے

لنگھدا جیہڑے راہوں سوہنا

عربی شاہ اسوار گیا

نظرِ کرم دی کر کے سوہنا

سب دے بیڑے تار گیا

پھر !

☆ اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

یہ وہ چشمِ کرم ہے جو صرف انسانوں یا فرشتوں پر ہی نہیں ہوئی بلکہ جانوروں پر بھی نگاہِ کرم ہوئی اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے بھی دُکھ دُور کر دیئے اُن کی بھی مشکل کشائی فرمائی۔  
اُن کی بھی حاجت روائی فرمائی۔

سرکارِ جنگل میں جا رہے ہیں۔ آگے ہرنی شکاری نے قید کی ہوئی

ہے۔

آپ نے اُس کے کہنے پر اُسے آزاد کر دیا وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لیکر آجائے گی جب صیاد بیدار ہوا اُس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں۔  
اُس نے کہا ! میری ہرنی کہاں ہے ؟

آپ نے فرمایا ! ہم نے اُسے آزاد کر دیا ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی ہے ابھی آجائے گی۔

اُس نے کہا ! کیا جانور بھی کبھی واپس آئے ہیں۔

آپ نے فرمایا ! نہیں آتے لیکن ہم نے کہا اس لئے وہ ضرور واپس آئے گی۔

الغرض، عزیزانِ گرامی ! ہرنی اپنے بچے کو لیکر واپس آگئی اُس شکاری نے سرکارِ کائنات دیکھا حیران ہو گیا، اُس نے کلمہ پڑھ لیا۔  
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں !

ہاں یہیں چڑیاں کرتی ہیں فریاد  
یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد

آپ نے فرمایا ! کیا ارادہ ہے ؟

اُس نے کہا ! یا رسول اللہ اب میں آپ کا غلام ہوں حکم فرمائیں۔

آپ نے فرمایا ! اب ہرنی کو آزاد کر دو۔

اُس نے کہا ! آقا آپ خود کریں، آپ نے ہرنی کو بھی آزاد

کر دیا اور اُس کے بچے کو بھی آزاد کر دیا،

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کی اور اس

وقت کی منظر کشی ایک شعر میں اس قدر خوبصورت انداز میں کی ہے مجھے یقین

ہے کہ جب میں وہ شعر مکمل کروں گا۔

تو آپ سب سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔

شعر سماعت فرمائیں !

کر لیا حیواں کو بھی اپنی محبت میں اسیر

رحم دل محبوب نے ہرنی کا بچہ چھوڑ کر

یہ سرکار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمِ کرم کا کمال

ہے کہ ہرنی اور اُس کا بچہ آزاد ہو گئے اور وہ اعرابی حضور کی محبت کا اسیر بن

گیا اور اس غلامی کی بدولت وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ پھر کیوں نہ کہوں،

☆ اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

ہر ڈکھئے دے درد و نڈاوے کملی والا سوہنا  
 ہر جھولی نون بھردا جاوے کملی والا سوہنا  
 ڈبیاں تائیں پار لگاوے کملی والا  
 صائم ڈگیاں نون گل لاوے کملی والا سوہنا

اور یوں کہہ لو !

نظر کرم دی کر کے اُس نے ایسا کرم کمایا  
 جان دے ویری دشمن نون وی سینے نال لگایا

یہ چشم کرم ہے جس پر سلام بھیجنا ضروری ہے سب میرے ساتھ مل  
 کر یہ مصرعہ دوہرائیں۔

اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام

یہ وہ نگاہِ عنایت ہے جو دنیا میں بھی ہمارے لئے سہارا ہے۔

قبر میں بھی سہارا ہوگی اور آخرت میں بھی سہارا ہوگی۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروزِ حشر کی منظر کشی کرتے

ہیں اور نظر کرم کی بات کرتے ہیں !

اوندی عملاں دے ولوں سی صائم شرم

رکھ لیا کملی والے نے ساڈا بھرم

دن قیامت دے سوہنے دی نظر کرم

میرے جئے عیب کاراں دے کم آگئی

اور پھر یوں کہتے ہیں !

اب بارگاہِ سرچشمہ انوار میں نور حاصل کرنے کیلئے نعت رسول پیش کرنے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد نور عالم چشتی صاحب۔

## وجہ تخلیق کائنات

حضرات گرامی ! ہمارے آقا و مولیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ اصلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں !

”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“

”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا“

حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا ! سب سے پہلے اللہ نے میرا

نور بنایا اور پھر میرے نور سے عالمین کو بنایا گیا تو پھر کیوں نہ کہوں

کہ ہمارے آقا کا نور نورِ اول ہے۔

☆ حضور کا نور پہلے بنا آدم بعد میں بنے۔

☆ حضور کا نور پہلے بنا موسیٰ بعد میں بنے۔

☆ حضور کا نور پہلے بنا سلیمان بعد میں بنے۔

☆ حضور کا نور پہلے بنا عیسیٰ بعد میں بنے۔

☆ حضور کا نور پہلے بنا انبیاء بعد میں بنے۔

☆ حضور کا نور پہلے بنا آسمان بعد میں بنے۔

- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا زمین بعد میں بنی۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا فرشتے بعد میں بنے۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا انسان بعد میں بنے۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا عرش بعد میں بنا۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا کرسی بعد میں بنی۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا لوح بعد میں بنی۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا قلم بعد میں بنی۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا پانی بعد میں بنا۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا پہاڑ بعد میں بنے۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا دریا بعد میں بنے۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا کائنات بعد میں تخلیق ہوئی۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا بساطِ کائنات بعد میں بچھائی گئی۔
- ☆ حضور کا نُور پہلے بنا بزمِ کونین بعد میں سجائی گئی۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں !

بزمِ کونین سچی میرے شہا! تیرے بعد  
 نُور سارے ہیں بنے نُورِ خدا تیرے بعد  
 جب السُّٹ کا تھا فرمان کیا خالق نے  
 سارے نبیوں نے ملی آقا کہا تیرے بعد

کس طرح محض بشر تجھکو میں کہہ دوں آقا  
 پیکرِ حضرتِ آدم ہے بنا میرے شہا تیرے بعد  
 راہیں سب کھول بھی دیں عرشِ علی کی ٹونے  
 اُس طرف پھر بھی کوئی جا نہ سکا تیرے بعد  
 اور !

اُس کو کذاب کہوں عانیءِ ابلیس کہوں  
 جس نے بھی دعویٰ نبوت کا کیا تیرے بعد  
 تیرے ہونے سے ہی ہونا ہے جہاں کا آقا  
 تیرا ہی حُسن ہے سب جلوہ نما تیرے بعد  
 بعد خالق کے بڑائی ہے تمامی تیری  
 جس کو بھی کوئی ملا رتبہ ملا تیرے بعد  
 تو ہی ممدوحِ خدا ہے محمد بھی ہے تو  
 کس کی صائم یہ کرے مدح و ثنا تیرے بعد  
 حضراتِ گرامی ! اس خوبصورت کلام کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ  
 مزید جملے بولے جائیں لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں دعوتِ نعت دیتا  
 ہوں پاکستان کے معروف ثناخوان جن کی نسبت بھی اعلیٰ ہے اور نام بھی اعلیٰ  
 ہے۔

جن کا شرف بھی اعلیٰ ہے اور کام بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ان کا کام ہی

محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاخوانی ہے۔

حضراتِ گرامی ! حضرت موسیٰ کیلئے حکم لُن تَرانی ہے۔

اور محبوبِ خدا کیلئے حکم آجانی ہے۔

حضور کی دو جہاں پہ حکمرانی ہے۔

جس شاخوان کو دعوت دینے والا ہوں۔

یہ مطیع فرمانِ ربانی ہے۔

کیونکہ کرتا آقا کی شاخوانی ہے۔

نام کے لحاظ سے محمد بوٹا سلطانی ہے۔

تشریف لاتے ہیں گو جرہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان

شاخوان جناب محمد بوٹا سلطانی صاحب

حضراتِ گرامی ! جناب محمد بوٹا سلطانی نے پہلے نعت شریف

پڑھی اور پھر آخر پر فرمائش پر کلام حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ سے نوازا۔

جس طرح محفل کا ماحول بنا ہوا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ

حضرت سیدنا سخی سلطان باہو اپنے دیوانوں پر کرم فرمانے کیلئے رُوحانی طور پر

تشریف لے آئے ہیں۔

حضرت سلطان باہو لکھتے ہیں !

بغداد شہر دی کی اے نشانی اچیاں لسیاں چیراں ہو

پھر کیوں نہ کہوں !

غوث الاعظم پیر پیراں دا بدل دوے تقدیراں  
 غوث دے ناں دا نعرہ لایاں ٹٹ جاون زنجیراں  
 غوث جلی دے درتے ہندیاں معاف سبھے تقصیراں  
 حضرت باہو ورگے صائم کر دے میراں میراں  
 کون حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جن کی نگاہ فیض نے بے شمار  
 کافروں کو ایمان کی دولت بھی عطا کی اور پھر ان کو روحانیت کے ارفع مقام  
 تک پہنچا دیا۔

حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں جلوہ گراولیاے کرام  
 کی پہلی صف میں شامل ہوتے ہیں آج آپ کے ماننے والے ساری دُنیا  
 میں موجود ہیں۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ باہو میں ہدیہ عقیدت  
 پیش کرتے ہیں کہ !

تیرے نام تھیں جان وچہ جان پیندی تیرے نام توں جان قربان باہو  
 تیری شان وچہ غوث دی شان چمکے کیویں دس سکاں تیری شان باہو  
 تیری شاعری دکھری جگت نالوں تیرے دکھرے ہین عنوان باہو  
 تیرے شعراں دے چھلک دے جام اندر سوز عشق دا کیف عرفان باہو  
 تیرے شعراں وچہ فلسفہ زندگی دا  
 تیرے شعراں وچہ رنگ حسان دا اے

تیرے شعراں وچہ عشق دی اگت بھڑکے  
 تیرے شعراں وچہ نور ایمان دا اے  
 کون باہوؤ؟ جن پر فیضِ غوثِ جلی ہے۔  
 جن پر مہرِ مولا علی ہے۔

اور شان والی حضرت سلطان باہو کی گلی ہے۔ اسی لئے حضرت  
 علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ،  
 سدھی جتناں نوں جاوے باہو پیر دی گلی  
 حضرات گرامی ! ہم تو اللہ والوں کے غلام ہیں اور ان کی محبت کو  
 ہم ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت رکھنے کی توفیق  
 عطا فرمائے۔ ﴿آمین﴾

## تصوّف

عزیزانِ گرامی قدر! اگر انسان روحانیت میں بلندی چاہتا ہے تو  
 اسے ولی کامل کا دامن کا پکڑنا ہوگا ولی کامل اپنے مرید کو بحر معرفت سے  
 گذارتا ہوا اُس عظیم بارگاہِ اقدس پر پہنچاتا ہے جسے بارگاہِ رسول اللعقین کہتے  
 ہیں اور وہی بارگاہِ اقدس ہے کہ جس پر پہنچنے والا رب اقدس تک پہنچ جاتا ہے  
 معرفت اُسے ہی حاصل ہوتی ہے جسے راہ معرفت پر چلانے والا  
 رہبر مل جائے۔

بُوبَا بِبِيرِ دَا مَلَّ تَعِ مَلَّ رَبِّ نُونِ  
 بِبِيرِ بِبِيرِ زَبَانِ چُونِ بُولدَا رِهَوِ  
 مَوُّ تَوَا قَبْلُ وَّلِّ مَارِ دَهِيَانِ نَالِ  
 جو مرنے سے پہلے مرجاتا ہے اسے موت نہیں مار سکتی اسی بات کو  
 حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور سالک کو مخاطب  
 کرتے ہیں۔

مَوُّ تَوَا قَبْلُ وَّلِّ مَارِ دَهِيَانِ نَالِ  
 نَبْضِ هَسْتِي نُونِ نَالِ تُوَلدَا رِهَوِ

دِلِ دَعِ وِچَہِ مَكَانِ دِلدَارِ دَا اَعِ  
 قَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ عَرْشِ اللَّهِ تَعَالَى

دِلِ دَعِ وِچَہِ مَكَانِ دِلدَارِ دَا اَعِ  
 کُنڈی قَلبِ دِي دُوسْتَا کھولدَا رِهَوِ  
 سِجھِ حَبْلِ الْوَرِيدِ دِي زَمَرِ صَائِمِ

ورقے اپنی کتاب دے پھولدا رِهَوِ

عزیزان گرامی! مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔

مومن کا دل جلوہ گاہِ کبریا ہے۔

مومن کے دل پر تجلیات و انوارِ الہیہ کا ورود ہوتا ہے جب ایک شخص

ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ شخص جو دنیا دار ہے وہ شخص جو ظاہری

دُنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے تو ولی کامل اس کے دل کو صاف کرتا ہے اس کے دل پر ولی کامل کی توجہ ہوتی ہے اس کے دل کی سیاہی ولی کامل اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے لڑکے اپنی تختی کو سفید مٹی سے صاف کرتے ہیں اس کے دل کے سیاہی ختم کر کے اس کے دل کو ولی کامل اس طرح بنا دیتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ کے نور کی تجلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مُرشد کامل جس حالت میں بھی ہوں پانے مریدوں کے حال سے آگاہ ہوتے ہیں۔

حضرات گرامی! سالک جب راہ سلوک پر چلتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے ظاہری نمود کی ضرورت نہیں ہوتی مردِ کامل کبھی دکھاؤ کے لئے کوئی کام نہیں کرتا ہے اس کی غذا بھی مختلف ہوتی کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ درویش کی خوراک کے متعلق لکھتے ہیں کہ درویش کی غذا حالت وجد ہے درویش کے لباس کے متعلق فرماتے ہیں درویش کے لباس کے متعلق فرماتے ہیں درویش کا لباس تقویٰ ہے اور پانے کی جگہ کا نام قائب ہے۔

اُس کی غذا حالت وجد ہے۔

وجد کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ میں نہ ہو۔

جب قطرہ دریا میں مل جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا دریا ہو جاتا ہے

اور جو شخص فنا فی الشیخ ہو جائے اپنے شیخ میں فنا ہو جائے وہ اپنے میں نہیں ہوتا

جو شخص فنا فی اللہ کا مقام و مرتبہ حاصل کر لے وہ پھر خود نہیں ہوتا حدیث قدسی پیش کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے جب انسان میرا قرب حاصل کر لیتا ہے یعنی وصل حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ وہ نہیں ہوتا میں ہو جاتا ہوں۔

کان اُس کے ہوتے ہیں سماعت میری ہوتی ہے۔

ہاتھ اُس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے۔

زبان اُس کی ہوتی ہے گفتگو میری ہوتی ہے۔

پاؤں اُس کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے۔

ہستی کا وہم خوف عدم سب مٹا دیا

جب بے خودی کا عشق نے پیا لہ پلا دیا

جب معنی منکشف ہوئے کلمہ شریف کے

کثرت کے بیچ شاہدِ وحدت دکھا دیا

تو معاملہ یہ بن جاتا ہے کہ،

وجود واحد ہی ہر شان میں عیاں دیکھا

اس کو دیکھا عیاں میں وہی نہاں دیکھا

اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کا ذکر اس

طرح فرماتے ہیں۔

تیرے مکھنوں سمجھ قرآن لیا تیرے ذرّوں کعبہ جان لیا

جاں دل چوں شعلے نکل پئے اسماں یاروا جلوہ جان لیا

اور کیا خوب شعر ہے سماعت کیجئے۔

جاں ویکھاں تیرا نقش قدم وڈھ جاوے شوق عبادت دا

جتھے ہوئی بس بیتاب جبیں اوتھے ای سجدہ جان لیا

جاں نظر جنوں دی پیندی اے

پھر کیا ہوتا ہے؟

جاں نظر جنوں دی پیندی اے سب پردے اٹھدے جاندے نے

صائم پیا مٹاں کر دا اس سجناں نے تقاضا جان لیا

اور پھر!

دُنیا توں وکھرے رنگ اندر اسی اللہ والے دیکھے نے

ان کا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔

ان کا رنگ ہی مختلف ہو جاتا ہے۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہم تصوف کے فرقہ ملامتیہ کے

سرور ہیں آپ بسطام سے کسی جگہ گئے اور لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر

ہوئے اور دست بوسی کرنے لگے قدم بوسی کرنے لگے رمضان المبارک کا

مہینہ تھا آپ نے ان سب کے سامنے اپنے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالا اور چبانے

لگتے لوگوں نے کہا یہ کیسا ولی ہے جس نے رمضان المبارک کا روزہ بھی

نہیں رکھا؟ یہ کہہ کر وہ لوگ آپ پر ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔

دُنیا توں وکھرے رنگ اندر اسی اللہ والے دیکھے نے

حضرت بابائے شاہ رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے پابند اور نہایت سخت تھے علوم شریعت اور ظاہری علوم میں کامل تھے لیکن جب حضرت عنایت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی رنگ دکھایا تو ظاہری نمود و نمائش چھوڑ دی اور پھر جب دیکھا کہ مُرشد کامل کی نگاہ نہیں ہو رہی عرض کرتے ہیں آقا! آپ کو راضی کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔

فرمایا! عبداللہ ہمیں راضی کرنے کے لئے کہیں بُلھے شاہ بنا پڑے گا تمہیں ناچنا پڑے گا پھر وہی بُلھے شاہ اپنے پیر کامل کی رضا کے لئے ناچتے ہیں۔

دُنیا توں وکھرے رنگ اندر اسیں اللہ والے دیکھے نے  
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کامل کا تعارف کراتے ہیں۔

یاد ہیں اسلاف کی گفتار میں کردار میں  
کوئی خوبی نہیں یارو ہری سرکار میں  
رہبر کامل ، ولی الاولیاء ، شیخ الشیوخ  
سینکڑوں سالک ہیں پیچھے جا وہ گلزار میں  
اور ان کے فرمان کی اہمیت اور خصوصیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ  
کہہ دیا جو ہو گیا وہ جس کو روکا رک گیا  
کاٹ ہے تلوار کی گویا لب اظہار میں

اور شیخ کامل تو وہ ہوتا ہے جسے اپنے تو اپنے غیر بھی احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔

حضرات گرامی! سلطان باہو کو دیکھیں۔

بابا فرید الدین شکر گنج کی سیرت کا مطالعہ کریں۔

حضرت نظام الدین اولیاء کی حیات مبارکہ کو دیکھیں۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی حیات مقدسہ کا مطالعہ کریں۔

کہ اُن کے دامانِ کرم سے وابستہ ہونے والے تو اُن کے غلام بنے لیکن کفار بھی ان کا احترام کرتے ہندو بھی اُن کا احترام کرتے بے دین بھی ان کا احترام کرتے اور جب اللہ کے ولیوں کا ذکر خیر کرتے تو نہایت محبت کے ساتھ نہایت پیار کے ساتھ نہایت اُلفت کے ساتھ نہایت عقیدت کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ کیوں!

☆ اس لئے کہ اللہ والوں نے جیسے کا ڈھنگ بتایا۔

☆ اللہ والوں نے طرزِ حیات دیا۔

☆ اللہ والوں نے اخلاق کی دولت دی۔

☆ اللہ والوں نے محبت و پیار کا درس دیا۔

☆ اللہ والوں نے وفا کی بھی اور وفا کا حکم بھی دیا۔

☆ اللہ والوں نے ہر آنے والے سے پیار کیا۔

☆ اللہ والوں نے ہر آنے والے کو سینے سے لگایا۔

☆ کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہے۔

یہ کافر ہے یہ ہندو ہے یہ بے ایمان ہے یہ مُشرک ہے۔

اُٹھ کر سینے سے لگایا اور جو اُن کے سینے سے لگ گیا اُس کے سینے

سے شرک کی غلاظت نکل گئی اسی لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ  
ایک شعر میں اُن کے فیض کی بات کرتے ہیں کہ،

تاقیامت ہر طرف جاری ہے فیضان و کرم

کیوں نہ ہوں چہ چہ تمہارے محفلِ اغیار میں

اور یہ فیض کیوں جاری ہے۔

کیونکہ اللہ والوں کا رابطہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا

ہے۔

اللہ والوں کا تعلق آقائے دو عالم سے ہوتا ہے۔

اللہ والے کا ہاتھ اُس تاجدارِ عالمین کے ہاتھوں میں ہے کہ جس

کے ہاتھ مقدس تو اللہ تعالیٰ ید اللہ کہہ رہا ہے۔

رحمتِ عالم کے دستِ پاک میں ہے دستِ شیخ

جائے کیوں خالی بھلا آکر کوئی دربار میں

ہو گئی صائم مجھے معراجِ اُفت کی نصیب

یار کا سودا ہے سر میں سر ہے پائے یار میں

حضرت گرامی! جس شخص کو شیخ کامل کی نسبت حاصل ہو جائے  
 درحقیقت وہ انسان بے حد خوش قسمت ہے اور یہ بات بھی ہے کہ شیخ کامل  
 آج کل کے دور میں قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں لیکن جن کی  
 راہنمائی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادیں ان کی تو پھر بات ہی  
 نرالی ہے۔

حضرات گرامی! حضرت شیخ بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے  
 تھے کہ انہیں شیخ کامل ملیں جن سے وابستہ ہو کر روحانیت کی منازل طے  
 کریں۔

اسی اضطراب میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔

اس سوچ میں گم رہے تھے۔

یہ خیال آتا کہ ساٹھ سال سے اوپر عمر ہوگئی۔

اب ایسی شخصیت مل جائے کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں

ایک رات بدرالدین سوتے ہیں اور قسمت جاگ اٹھتی ہے۔

خواب میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔

سرکارِ مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک کم عمر نو جوان کی طرف

اشارہ کر کے فرمایا اے بدرالدین ہم قطب الدین نامی اس نو جوان کو تمہارا

مرشد بنا رہے ہیں آنکھ کھل بدرالدین گھر سے رخصت ہوتے ہی اپنے والد

گرامی کی دست بوسی کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں باپ نے

نمناک آنکھوں سے بیٹھے کو رخصت کیا۔

آپ دیہات و قصبات میں قطب الدین کو تلاش کرتے ہیں لیکن ناکامی رہی دہلی میں آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی آپ اپنے داماد کے پاس گئے کہا بیٹے تم جانتے ہو میں نے ابھی بیعت نہیں کی میں قطب الدین صاحب کا مرید ہونے آیا ہوں۔

لیکن تلاش کے باوجود مجھے نہیں ملے داماد نے کہا ابا جان اگر خواجہ قطب الدین آپ کے سامنے آجائیں تو آپ پہچان لیں گے آپ نے فرمایا بیٹا ان کی صورت مبارک میری نگاہوں میں بسی ہوئی ہے میں کیوں نہیں پہچانوں گا۔

داماد نے کہا! آپ کی عمر اس وقت سترہ سال ہے لیکن جس قطب الدین کو میں نے دیکھا ہے وہ تو بمشکل سترہ سال کا ہوگا آپ اتنے بزرگ کر نوجوان کے مرید بنیں گے؟

آپ نے کہا! مجھے سر کا دہنے ان کا مرید بنانا ہے تم مجھے ان کے پاس سے چلو جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاہکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں قطب الدین کا چہرہ مبارک جو شیخ بدر الدین کے چشم و دل میں پہلے ہی موجود تھا جب سامنے آیا تو دل نے یہی کہا یہ وہ ہے جس کا نام تیرے تیرے کلمہ نون سمجھ قرآن لیا تیرے دل پر لکھا ہے چشم جان الیادشہ تیری چشم ہے چشمہ زم زم و تیری بولف نون بندہ جان الیادشہ

جاں ویکھاں تیرا نقش قدم و دھ جاوے شوق عبادت دا  
 ہوئی بے تاب جہیں جتھے بس اوتھے ای سجدہ جان لیا  
 محفل سماع ہو رہی تھی حضرت قطب الدین مسد قطبیت پر جلوہ  
 افروز تھے محفل میں حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔

بدر الدین نے داماد سے کہا بیٹا یہ بزرگ جو ہیں ان کی عمر کیا ہوگی۔  
 داماد نے کہا! ایک سو سال سے اوپر ہوگی۔

آپ نے فرمایا! اتنا عمر رسیدہ بھی ان کے سامنے شرف ارادت  
 رکھتا ہوگا؟

بدر الدین حضرت خواجہ قطب الدین کی خدمت میں حاضر ہوتے  
 ہیں اور ان کے قدموں کو چومتے ہیں عرض کرتے ہیں۔

آقا مجھے بھی حلقہ ارادت میں داخل فرمائیں حضرت قطب الدین  
 نے فرمایا بدر الدین جس رات تم نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم کی تھی ہم نے تو تجھے اسی وقت مرید کر لیا تھا اور پھر کیا ہوتا ہے بدر الدین کو  
 روحانی منازل طے کرائی جاتی ہے۔

شمع مُرشد دے عشق دی بال دل و چہ روشن ہووے نہ سینہ تے مینوں پھڑھیں  
 نقشہ بنھ سکے و کچھ توہی پیر والا دل نہ بنے مدینہ تے مینوں پھڑھیں  
 وار زندگی یاد تو اپنی زندگی تو اے سبے نہ آدھے قرینہ تے مینوں پھڑھیں  
 صائم ٹھل پو مُرشد دے اُسرے تے تیرا ڈبے سفینہ تے مینوں پھڑھیں

شاہ لاٹانی حضرت پیر سید جماعت علی لاٹانی علی پوری رحمۃ اللہ علیہ  
کا ایک مُرید تھا جو گنوار ہے اس کا کام تھا کہ آپ کے رکھے ہوئے مال  
موشیوں کو چارہ ڈالتا تھا شاہ لاٹانی اسے پیار سے نمبردار کہتے تھے۔

ایک دن شاہ لاٹانی نے بڑی محبت سے نمبردار سے کہا نمبردار جی  
جدوں تسی فوت ہو جاؤ گے قبر چہ فرشتیاں نے سوال کرن آن گے تے کی  
جواب دیو گے نمبردار جو ولیوں کا عاشق تھا۔

نمبردار جو اللہ کے ولیوں کا عقیدت مند تھا۔

اُس نے کہا! حضور مجھے سوالوں کے جواب نہیں آتے لیکن جب  
فرشتے میرے پاس قبر میں آئیں گے تو میں اُن سے کہوں گا اے فرشتو  
دھیان کر لو میں شاہ لاٹانی سید جماعت علی شاہ صاحب دیاں مجھاں نوں پٹھے  
پوندار ہیاواں شاہ لاٹانی مسکرا اٹھے فرمایا نمبردار جی تسی ایہوای کہہ دیو۔

فرشتے تہانوں کجھ نہیں کہن گے نمبردار نے بھی یہی کہا ہو گا جو  
حضرت مددہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے  
نین ملار کھے ہیں۔

ٹانی دے دربار تے میں وی نظراں لائی بیٹھا  
لاٹانی دا ہو کے ہاں ہر چیز بھلائی بیٹھا  
دل دے ہاں میں ساری مقصد ایتموں پائی بیٹھا  
صائم جدتوں پیار ایہدے دی شمع جلائی بیٹھا

اور نمبر دار کے جملوں کو شعر میں یوں بیان فرمایا کہ،

لا اثماني سرکار وا سارا ڈیرا اے لا اثماني

دل میرے تے پیار اوہدے دا گھیرا اے لا اثماني

لا اثماني دے ضد تے شعر وی میرا اے لا اثماني

تینوں کاہدا خوف اے صائم تیرا اے لا اثماني

حضرات گرامی! اللہ والوں کی بات کمال ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ

والے خود بھی با کمال ہوتے ہیں اور یہ کمال ایسے ہی نہیں ملتے۔

ان کمالات کو حاصل کرنے کے لئے ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔

اگر کوئی ولی پیدائشی ولی ہو تب بھی اُسے ولایت کا مرتبہ سنبھالنے کے

لئے ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔

☆ اللہ والے ریاضت کرتے ہیں۔

☆ اللہ والے تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔

☆ اللہ والے عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔

☆ اللہ والے حقوق اللہ پورے کرتے ہیں۔

☆ اللہ والے انسانوں کی فلاح میں مصروف ہوتے ہیں۔

☆ اللہ والے تزکیہ قلب کرتے ہیں۔

☆ اللہ والے تزکیہ جسد کرتے ہیں۔

☆ اللہ والے تزکیہ چشم کرتے ہیں۔

☆ اللہ والے تزکیہ نفس کرتے ہیں۔

☆ اللہ والے ہر دم اللہ ہو کا ورد کرتے ہیں۔

☆ اللہ والے اہل اللہ ہوتے ہیں۔

☆ اللہ والے شیطان کے داؤ میں نہیں آتے۔

حضرات گرامی! ولایت حاصل کرنا آسان نہیں اس کے لئے  
تصوف کی بتائی ہوئی راہوں پر چلنا پڑتا ہے اس کے لئے ترک دنیا کرنا پڑتا  
ہے۔

☆ اس کے لئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ہوتی ہے۔

☆ اس کے لئے آشنائی ہوتی ہے تو رحمان سے۔

☆ نا آشنائی ہوتی ہے شیطان سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے ذکر کی لذت سے۔

☆ نا آشنائی ہوتی ہے دنیا کی لذت سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے مقام وحدت سے۔

☆ نا آشنائی ہوتی ہے ناسوتی طاغوت سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے منزل لاہوت سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے مقام جبروت سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے نورجہ ملکوت سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے سز العالمین سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے عین سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے یقین و عین الیقین و حق الیقین سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے سر و لبراں سے۔

☆ آشنائی ہوتی ہے اسرار و رموز و حقائق سے۔

عزیزان گرامی! اس میں وہ کمال ہے اس میں وہ مزہ ہے اس میں وہ لطف ہے جسے جو بیان نہیں ہو سکتا مگر اس کے لئے اپنے من کی میں ختم کرنی پڑتی ہے اس کے لئے محبوب کی فنائیت اختیار کرنا پڑتی ہے تب کہیں جا کے منزل فنا فی اللہ ہوتی جو فنا ہو جائے اللہ تعالیٰ اُسے بقا عطا فرمادیتا ہے اُس کو حیاتِ سرمدی نصیب ہو جاتی ہے۔ محترم شاخوان رسول نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منقبت پیش کی جس میں وجد کا ذکر تھا۔

## وجد کا مقام

حضرات محترم! وجد کہتے ہیں پانے کو۔ تو جب اللہ مل جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اُس کیفیت کو وجد کہتے ہیں، وجد وہ حالت ہے جسے بے خودی کہا جاتا ہے۔

☆ وجد وہ حالت ہے جسے استغراق کہا جاتا ہے۔  
☆ وجد میں انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے۔  
☆ وجد میں انسان اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے۔  
☆ وجد میں انسان اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے۔  
☆ وجد میں انسان اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے۔

“کے صفحہ نمبر ۳۰۹ پر لکھتے ہیں !

☆ وجد والوں کی ارواح لطیف اور خوشبو ہیں۔

☆ وجد والوں کا کلام مُردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔

☆ وجد والوں کی باتیں عقل بڑھاتی ہیں۔

اہل وجد سے ابتدائی حجاب اُٹھ جاتے ہیں۔

وجد کے دو مقامات ہیں۔

﴿۱﴾ دیکھنے والا، ﴿۲﴾ مشاہدہ کرنے والا

## جسے دیکھا جائے

وجود انتہاء ہے وجد کی کیونکہ وجد وارد کرنا ہے اور وجد بندے کے

استغراق کو واجب کرتا ہے۔

عزیزان گرامی ! وجد میں انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا، وجد

میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی حیاتِ مقدسہ کا مطالعہ کریں کہ

محافلِ سماع میں جب اُن پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو اُن کی ظاہری

حالت کیا ہوتی۔

وہ اہل شریعت جو شریعت اور طریقت میں اختلاف جانتے ہیں

اہل طریقت پر فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں لیکن جو علمائے اخیار ہیں جن کے سینے

علمِ حق کے نور سے روشن و منور ہیں کبھی اللہ والوں پر فتویٰ بازی نہیں کرتے۔

کیونکہ !

☆ اللہ والے اہل اللہ ہیں۔

☆ اللہ والے اہل حق ہیں۔

☆ اللہ والے اللہ کے پیارے ہیں،

☆ اللہ والے اللہ کے بندے ہیں۔

☆ اللہ والے اللہ کے محبوب ہیں۔

ان کی مختلف حالتوں میں سے کسی بھی حالت پر فتویٰ نہیں لگایا جاسکتا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ جارہے ہیں آپ پر ایک دم حالت ایک حالت آئی اور آپ جذب و مستی میں یہ کہنے لگے !

” سُبْحَانِي مَا عَظَمَ شَانِي ”

یعنی میں پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، میری شان بلند ہے۔  
جب مقام حال سے باہر آئے۔

مریدوں نے کہا ! حضور آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں۔  
آپ نے فرمایا ! پھر کبھی مجھ سے ایسے کلمات سنو تو مجھے تلواریں سے قتل کر دینا کیونکہ یہ الفاظ شریعت کے خلاف ہیں چند دنوں بعد اسی کیفیت میں آگے مریدین نے تلوار ماری مگر تلوار آپ کے جسم سے ہو کر نکل جاتی جیسے تلوار ہوا میں چلائی جاتی ہے۔

جب آپ مقام حال سے باہر تشریف لائے تو غلاموں نے سارا ماجرا پیش کیا اور کہا ! ہم نے تو تلوار ماری مگر تلوار سے آپ کو کچھ نہ ہوا۔  
 فرمایا ! اگر میں ہوتا تو ضرور مجھ پر تلوار اتر کرتی۔ یعنی آپ میں اُس وقت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات تھے۔ اسی لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !

دُنیا توں وکھرے رنگ اندر اسیں اللہ والے دیکھے نے

☆ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ قال ہونا آسان ہے صاحبِ حال ہونا بڑا مشکل ہے۔

☆ جو شخص باتیں ہی کرتا جانتا ہے اور صرف باتیں ہی کرتا ہے وہ صاحبِ قال ہے۔

☆ جو صرف قرآن پڑھتا ہے وہ صاحبِ قال ہے جو عمل کرتا ہے وہ صاحبِ حال ہے۔

☆ جو احادیث صرف پڑھتا ہے وہ صاحبِ قال ہے، جو عمل کرتا ہے وہ صاحبِ حال ہے۔

☆ حال کبھی دعوے کرنے سے نہیں ہوتا اس کیلئے اپنی ذات کو فنا کرنا پڑتا ہے۔

جیہ نال کرے بھاویں لکھ دعوے

قال کدی وی حال نہیں ہو سکدا

اس لئے کہ !

بناں مُرشدان راہ نمیں ہتھ اوندے وارث شاہ دے حُسنِ خیال نوں وکھ  
 پیر رومیؒ تو عشق دے چٹھہ نکتے پایا کیویں اقبال اقبالؒ نوں وکھ  
 برا قال زبان دا فلسفہ اے نکل قال مقال چوں حال نوں وکھ  
 کیویں اپنی مُستی وچہ مست پھردا پینا نظر دے نال غزال نوں وکھ  
 پھر !

جیہہ نال کریئے بھاویں لکھ دعوے

قال کدے وی حال میں ہو سکدا

آج لوگ کہتے ہیں ہم صاحبِ حال ہو گئے ہیں حقیقت ہے کہ

صاحبِ حال بننے کیلئے تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں اور پھر شکوے کو ختم  
 کرنا ہوتا ہے۔

حال حال ایویں لوکاں پاوتی رہ کے حال وچہ حال نوں ویکھیا ای نہیں

کنے چھیک لے کے جاندا وچہ پانی ماہی گیر نے جال نوں ویکھیا ای نہیں

اور !

دعویٰ حُسن پرستی دا کرن والے میں وی کسے وی زُلف دا ڈنگیا ہاں

فرق ایہاں ایں تیرا اے یار فانی میرے یار زوال نوں ویکھیا ای نہیں

جس انسان کو حالتِ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اُس کی زندگی

تبدیل ہو جاتی ہے اُس کی حالتیں بدل جاتی ہیں۔

☆ کبھی وہ حالت جذب میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت وجد میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت تجلی میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ بحر وحدت میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ قربِ دنیٰ میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت سلوک میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت نور میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت سرور میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت اضطراب میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت ہجر میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت وصل میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت جلال میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی وہ حالت جمال میں ہوتا ہے۔

کبھی وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ برف سے بھی سرد ہوتا ہے اور

آتش سے زیادہ بھی گرم حالت میں ہوتا ہے، ان حالتوں کے انداز بھی

مختلف ہوتے ہیں کبھی نماز سے فرصت نہیں ہوتی ہوتا چھ چھ ماہ کی نماز اور کبھی

رقص ختم نہیں ہوتا اور مہینوں رقص چلتا ہے اور ان کے رقص کرنے کا انداز بھی

عجیب و غریب ہوتا۔

☆ کبھی یہ رقص زمین پر ہوتا ہے کبھی فضا میں ہوتا ہے۔

☆ کبھی یہ رقص سیدھے سے ہوتا ہے کبھی اُلٹے ہوتا۔

کبھی یہ رقص پتھروں پر ہوتا ہے کبھی دریا کے پانی کے اوپر ہوتا ہے

☆ کبھی یہ رقص آگ میں ہوتا ہے کبھی یہ تختہ دار پر بھی ہوتا ہے۔

وڑ کے پٹھہ وچہ عشق نے رقص کینا چڑھکے دارتے نچیاتے عشق نچیا

نچیا عشق تلوار دی دھار اُتے نوکِ خار تے نچیاتے عشق نچیا

بٹھے شاہ طوائف بھیس کر کے دربار تے نچیاتے عشق نچیا

صائمِ حُسن وی جت کران بدلے اپنی ہارتے نچیاتے عشق نچیا

جب قلندر رقص کرتا ہے تو ساری کائنات ہمراہ رقص کرتی ہے۔

رقص کے قلندر تے نال اوہدے

ہر شے آل دوالے دی ناچ کردی

پھر وہ کیا کہتا ہے کہ !

ساقیؔ عشقِ عجب جامِ پلایا ہم کو

مست کر کے سرِ بازار نچایا ہم کو

رقص کرے قلندر تے نال اوہدے ہر شے آل دوالے دی ناچ کردی

مل کے خونِ تمہیں ناچ نچا دیندی نئے نہیں آپ پیالے دی ناچ کردی

نچدے اُگلان اُتے کمزور بندے بڈھی جیویں اُوہالے دی ناچ کردی

صائمِ ملے وجدان تے اک جیسی رُوح گورے تے کالے دی ناچ کردی

تے جہناں بہراں وچہ ہون اَسرار ربّی  
اللہ تعالیٰ کے اسرار جنہیں حاصل ہو جائیں وہ قدّس بہرہ ہوتے  
ہیں جن پر اسرار ربّی عیاں ہو جاتے ہیں۔

جہناں بہراں وچہ ہون اَسرار ربّی پیندے اوہ تلواری دھارتے نچ  
خوشی آوے تے گھول کے پی جاویں لُٹیا جاوے آرام قرار تے نچ  
نچ یار دی ہر اک رضا اُتے اوہدے غصّے تے اوہدے پیارتے نچ  
نچتا ہووے تے صائم منصور ورگے خاطر یار دی لیدے نے دار تے نچ  
عزیزانِ گرامی ! بات کرتا ہوں۔

جب انسان منزل لاہوت تک پہنچ جائے، جب انسان قطرہ بن کر  
بحر وحدت میں مل جائے تو اُس سے کچھ اوہجھل نہیں رہتا۔ حقیقت و معرفت  
کے پردے اُس کیلئے آشکار ہو جاتے ہیں پھر اُس کی نظر ایسی ہوتی ہے،  
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے رباعی لکھ کر حدِ کمال کر دی آپ  
فرماتے ہیں !

دیکھے کُل آفاق نوں نظر جہدی اپنے اندرتے اندر تک چلی جاوے  
قطرہ بیکں اوہ بحر شمار ہندی جہدی بوند سمندر تک چلی جاوے  
قسمت باہجہ نہ ملے حیات صائم تُر کے آپ سکندر تک چلی جاوے  
ہر شے نچ پیندی مستی جیس ویلے صائم رقص قلندر تک چلی جاوے

## وسیلہ اور نسبت

جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے  
 عشقِ سجدہ دکھائی دیتا ہے  
 کیا ادھر سے حضور گذرے ہیں  
 چاند سایہ دکھائی دیتا ہے  
 سنگِ اسود کو اس لئے چُوموں

فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرِ اسود کے پاس کھڑے ہیں جب  
 اُسے بوسہ دینے لگے تو آپ کا عشق و جذبہ جوش میں آیا آپ نے حجرِ اسود کو  
 مخاطب کر کے فرمایا۔

اے حجرِ اسود میں اس لئے نہیں چُوم رہا کہ تو شان والا ہے۔  
 میں تجھے اس لئے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو جنت سے آیا ہے۔  
 میں تجھے اس لئے نہیں چُوم رہا کہ تجھے جبریل لے کر آئے تھے۔  
 بلکہ اس لئے چُوم رہا ہوں کہ تجھ کو میرے آقا نے چُوما ہے۔

سنگِ اسود کو اس لئے چُوموں  
 اُن کا بوسہ دکھائی دیتا ہے  
 سارا قرآن ب سے س تک  
 اُن کا خطبہ دکھائی دیتا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تین سو چونتیس ۳۳۴ مرتبہ اپنے محبوب کو قتل کر مخاطب کیا کہ اے محبوب آپ فرمادیں اے رسول آپ ان لوگوں سے فرمادیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی انسانوں کو مخاطب کر سکتا تھا لیکن اُس نے انسانوں سے کلام کیا تو اپنے محبوب کے وسیلہ سے جو لوگ وسیلہ کے منکر ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن پاک سے قتل والی آیات نکال دیں کیونکہ ان میں بھی وسیلہ ہے عزیزانِ گرامی! سارا قرآن ہی وسیلہ سے ملا ہے بلکہ بغیر وسیلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں ملتا۔

اللہ کا تعارف رسول اللہ نے کروایا ہے بتائیں یہ وسیلہ نہیں ہے تو پھر

اور کیا ہے۔

☆ رحمان ملا تو وسیلے سے

☆ قرآن ملا تو وسیلے سے

☆ رمضان ملا تو وسیلے سے

☆ اسلام ملا تو وسیلے سے

☆ ایقان ملا تو وسیلے سے

☆ ایمان ملا تو وسیلے سے

☆ نماز میں درود وسیلہ ہے

حج میں صفا و مروہ حجرِ اسود مقامِ ابراہیم سب وسیلہ ہیں اگر اللہ والوں

کی قبروں پر جانا شرک ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ حج کرنے مکہ میں نہ جایا

کریں کیونکہ حطیم میں تین سوانبیاء کی قبریں ہیں اگر انبیاء کی تعظیم شرک ہے تو مقامِ ابراہیم پر نہ جایا کریں اگر ولیوں کا تبرک حرام ہے تو آبِ زم زم نہ پیا کریں آبِ زم زم بھی تبرک ہے بلکہ آبِ زم زم کو اس قدر تعظیم سے پیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر تعظیم سے اُسے پیتے ہیں اُرے اگر آبِ زم زم کی تعظیم کرنا جائز ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا جائز ہے؟

مَل نہیں سکتا خدا اُن کا وسیلہ چھوڑ کر  
غیر ممکن ہے کہ چڑھیئے چھت پہ زینہ چھوڑ کر  
اُرے یہاں بھی وسیلہ ہی کام آتا ہے اور قیامت کے دن بھی  
آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہی کام آئے گا۔

☆ قبر میں بھی اُن کا وسیلہ

☆ برزخ میں اُن کا وسیلہ

☆ حشر میں اُن کا وسیلہ

☆ پُلِ صراط میں اُن کا وسیلہ

☆ حوضِ کوثر اُن کا وسیلہ

☆ میزان پر اُن کا وسیلہ

جنت میں اُن کے وسیلے سے ہی جاسکتے ہیں اگر کوئی شخص کہے میں  
اُن کا وسیلہ نہیں مانتا تو اُسے بلا وسیلہ کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں۔ جنت  
ملے گی تو وسیلے سے ہاں البتہ جہنم میں انسان بغیر وسیلہ کے جاسکتا ہے تو جو

لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ ہیں غور فکر کر لیں کہ کدھر جانا ہے۔

عزیزان گرامی! ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔

☆ ہمارے پاس ولیوں کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس غوثوں کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس اللہ والوں کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس صحابہ کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس آئمہ کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس اہل بیت اطہار کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس سادات کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس نیکوں کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس انبیاء کا وسیلہ ہے۔

☆ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔

ایس گل نون سدا تون یاد رکھیں

باہجہ ہونی وسیلے نجات کوئی نہیں

اوہدے منہ چوں رب پیا بولدا اے

ودھ اوس دی بات تون بات کوئی نہیں

عالم وچہ وسیلہ سرکار دا اے

کملی والے تون اچی تے ذات کوئی نہیں

درد پڑھ کے حیدر دعا منگیں  
 وہ درد توں ہور سوغات کوئی نہیں  
 عزیزان گرامی! درد پاک بھی وسیلہ ہے حضور فرماتے ہیں کوئی  
 بھی نیک کام کرنے سے پہلے مجھ پر درد پاک پڑھا کرو اور ایک حدیث میں  
 فرمایا کہ وہ دعا عرش تک نہیں پہنچتی جس دعا سے پہلے مجھ پر درد پاک نہ بھیجا  
 جائے۔

حضرت علامہ صائم چشتی نے کمال شعر تحریر فرمایا۔

لکھ رہے اُسے ترے لوے کوئی ہندا غور پر او سے دعا اُتے  
 پہلاں منگن توں پڑھیا درد صائم ہووے جہدے اندر مصطفیٰ اُتے  
 تمام لوگ درد پاک پیش کریں الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ  
 اور درودوں کے ترانے بارگاہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے  
 کے لئے تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد حسیب قادری عطاری صاحب۔

میخانہ

حضرات گرامی!

ایک رباعی پیش کرتا ہوں۔

چشتی نے دی مستی کوئی کی دتے  
 اوہو دتے گا جہنوں پلائی جاندی

علی علی چشتی تاں کر دے  
 نجف وچہ اے یارو بنائی جاندی  
 ایہہ تے مثل شراب طہور دی اے  
 حوض کوثر دے ساقی توں پائی جاندی  
 حیدر مل جاوے تینوں اک قطرہ  
 اوہدے کول اے دوڑی خدائی جاندی

حضرات گرامی! آستانے درحقیقت میخانے ہیں کہ وہ میخانے  
 ہیں جہاں سے عشق رسول کی عے حاصل ہوتی ہے یہ وہ میخانے ہیں  
 جہاں سے محبت ملتی ہے۔

- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے پیار ملتا ہے۔
- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے اُلفت ملتی ہے۔
- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔
- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔
- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں
- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے سوز و گداز ملتا ہے۔
- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان حاصل ہوتا ہے۔
- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے تالیفِ قلبی ہوتی ہے۔
- ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے طہارتِ قلبی ہوتی ہے۔

☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے چین و قرار ملتا ہے۔  
 ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے فیض سرکار ملتا ہے۔  
 ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے رُوحانیت کی منازل کا پتہ ملتا ہے  
 ☆ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے عاشقوں کو عشق کی دولت حاصل  
 ہوتی ہے۔

حضرات گرامی! سلسلہ طریقت کوئی بھی ہو سب ہمارے ہیں۔

☆ سلسلہ چشتیہ بھی ہمارا ہے۔

☆ سلسلہ قادریہ بھی ہمارا ہے۔

☆ سلسلہ نقشبندیہ بھی ہمارا ہے۔

☆ سلسلہ سہروردیہ بھی ہمارا ہے۔

ان سلاسل کے میخانے دیکھئے۔

☆ ایک میخانہ اجمیر شریف ہے۔

☆ ایک میخانہ کلیئر شریف ہے۔

☆ ایک میخانہ بغداد شریف ہے۔

☆ ایک میخانہ دہلی میں ہے۔

☆ ایک میخانہ پاکپتن شریف میں ہے۔

☆ ایک میخانہ سلطان باہو کا ہے۔

☆ ایک میخانہ سرہند میں ہے۔

☆ ایک میخانہ گولڑہ شریف میں ہے۔

☆ ایک میخانہ سیال شریف میں ہے۔

☆ ایک میخانہ لاہور میں ہے۔

☆ ایک میخانہ فیصل آباد میں ہے۔

☆ ایک میخانہ شرقپور شریف میں ہے۔

☆ ایک میخانہ چورہ شریف میں ہے۔

☆ ایک میخانہ علی پور شریف میں ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ علی پور سیداں

کے میخانے کی بات کرتے ہیں۔

اج ہے عرس لاٹانی دا آؤ رندو بھر بھر کے عرفان دے جام پی تو

جتنی پی سکورج رج پی تو بناں ملوں اج خاص تے عام پی تو

کوئی وقت وی قید نہیں نئے نوشو بھاویں صُبح پی تو بھاویں شام پی تو

گھٹنے ٹیک کے ادب دے نال سارے اگتے تھاں آزاد غلام پی تو

روز روز نہیں ایہو جہیا وقت اوند املدا اے وقت مقدر دے نال ایسا

روز حشر تیک جہوا مست کر دے ساقی کدی مل دا با کمال ایسا

اور پھر فرماتے ہیں !

بلا جھجک میخانے دے وچہ آؤ کھلی نئے اج پیا ورتائے ثانی

مستی عشق و محبت دی چاہڑ کے ہوش و خردی ہوش اڈائے ثانی

نظراں میل کے فرش دے باسیاں نوں عرش اعظم وی سیر کرائے ثانی  
 ہراک رندوی طلب نوں کرے پورا کسے تا نہیں نہ خالی پرتائے ثانی  
 جو وی منگو گے ملے گا قسم ربّ دی در سید لا ثانی تے گھاٹ کوئی نہیں  
 سردے پیر بناؤ تے قدم پٹو منزل ساہمنے جے ملی واٹ کوئی نہیں  
 حضرات گرامی! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کدہ  
 نقشبندیہ کی مے کی بات کرتے ہیں اور اس شراب کا تعارف یوں کرواتے  
 ہیں۔

ایہہ شراب کوئی ایسی شراب ناہیں پیندی تھہ ہے جیہڑی بازار دے وچ  
 ایہہ ہے اوہ شراب تیار جیہڑی ابو بکر نے کیتی سی غار دے وچ

بڑا چہ رہی فقر دی پٹھہ چڑھدی لہنوں خانہ حیدر کرار دے وچہ  
 رنگ خون محبت دا فیر چڑھیا لہنوں کر بلا دے لالہ زار دے وچہ

قطرہ قطرہ نچوڑ کے خون اپنا ایہہ شبیر نے سُرخ بنائی ہوئی اے  
 ایہہ نہ سمجھنا ملدی اے مُفت مٹی تے ایہہ پچھوں وی مُفت ای آئی ہوئی اے

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس مے کی قیمت بیان کرتے

ہیں کہ !

اک اک چھٹ ایہدی آئیڈی قیمتی اے جسدا مل ایہہ دونوں جہان گھٹ اے  
 بناں قیمت توں پیا ورتائے جہڑا لہدا ایہو جیا پیر مغان گھٹ اے  
 ملدی مل تے کدی نہ لے سکدوں تیری ہستی داسارا سامان گھٹ اے  
 واجاں مار کے آپ پلائے ساتی ہندا وقت ایسا مہربان گھٹ اے  
 ایہہ ہے اوہ شراب نایاب جہڑی رور و غاراں دے وچہ بنائی گئی اے  
 ایسے ایسے چوں سٹ کے ایک قطرہ حوض کوثر دی قیمت ودھائی گئی اے

ایسے نوں بابا فرید پی کے  
 پاکپتن نوں عطا سی شان کیتی  
 ملی مے جد حضرت نظام تائیں  
 خسرو آپ توں جان قربان کیتی

ایسے ایسے دیاں مستیاں فیر مڑ کے دھاں چورے شریف چہ پاجھڈیاں  
 انت انت دی گیا صدا دیندا ساتی بونداں دو جنہوں چکھا جھڈیاں  
 مہسیاں ہویاں گنا ہواں دے بھنور اندر لکھاں بیڑیاں بنے لگا جھڈیاں  
 مڑ کے ڈیوٹیاں مے ورتان خاطر سید مخی لاٹانی دیاں لا جھڈیاں  
 تے ہن آن ملی مانی وٹہ دا اے جس دے نال دی ہور شراب کوئی نہیں  
 ہٹ وی جہوں نصیب ہوگئی اوہدا حشر نوں ہوناں حساب کوئی نہیں

## حضرات گرامی!

عاشق کبھی عشق میں الٹ پھیر نہیں کرتا جناب محمد جمیل چشتی عاشق کو

سبق دیتے ہیں کہ۔

سچے پیار دے وچہ نہ مار ڈنڈی پورا تول وچ رہ پورا ناپ وچہ رہ

دیکھی ایویں بے سرانہ ہو بیٹھیں بھنگڑا پوناتے ڈھول دی تھاپ وچہ رہ

جدوں ہتی اے ایویں نہ پارولا عزت چاہناتے اپنے آپ وچہ رہ

جے توں ساتی توں فیض جمیل لیناں سچے نگ وانگوں جڑیا چھاپ وچہ رہ

کیونکہ!

ساتی اوہنوں میخانے چوں کڈ دیندا شوخا بن کے جہڑاوی شور کردا

ساتی آپ پلاوے تے مزا اوندا منگواں نشہ طبیعت نوں بور کردا

کچے رند دی جام تے نظر ہندی پکا ساتی دے چہرے تے غور کردا

وٹ واپی کے چپ جمیل جہڑا ساتی کرم اس تے سنیاں ہور کردا

جو لوگ چاہتے ہیں کہ ساتی ہم پر کرم فرمائے وہ اپنے آپ کو ساتی

کے تصور میں گم کر دیں کیونکہ!

لہجہ جانڈے نے دونویں جہان اوہنوں اپنے آپ نوں کر جو گم لیندا

اوہو عشق دیاں منزلاں طے کردا ہستی کر جہڑا گم صم لیندا

نشہ اوس دا لہندا نہیں حشر حکمرانی جہڑا میخانے دی چم لیندا

اوہدے گرد جمیل ہر چیز گم دی جہڑا گرد میخانے دے گم لیندا

## حضرات گرامی!

میخانے کا ادب و احترام کرنا رند کا فرض عین ہوتا ہے۔

کیونکہ میخانے کا ادب کرنے والے کو ہی شراب و عشق ملتی ہے

جناب جمیل چشتی کہتے ہیں۔

جہڑا رند میخانے وا ادب کردا ہتھ او سے دا جام تک پہنچ جاندا

اوہنوں ساقی تھیں ملن دا اذن ملدا اجہڑا اوہدے غلام تک پہنچ جاندا

پی کے جہڑا وی بجز تھیں جذب کردا اوہو برند انعام تک پہنچ جاندا

کردا ہستی نوں پست جمیل جہڑا اوہو اعلیٰ مقام تک پہنچ جاندا

اور جو لوگ اپنی ہستی کو نہیں مٹاتے ان کے بارے میں رباغی ہے کہ

میں نوں اوہناں نے بھلا کی مارناں ایں پی کے میں دے جام جو جام ہو گئے

جہڑے ساقی دی رمز نہ سمجھ سکے اوہو وچ میخانے بد نام ہو گئے

اوہناں کرنی غلامی کی یار دی اے اپنے نفس دے جہڑے غلام ہو گئے

جہاں ساقی دے قدم جمیل پتھے اوہو رنداں دے رند امام ہو گئے

سب سے بڑے میخانے کی بات کرتا ہوں کہ !

کھلیا وچ مدینے دے میخانہ ایتھوں داتا تے خواجہ فرید پتی

نشہ اوہناں دا لہندا نہیں حشر تیکر جہاں گھول کے پاک توحید پتی

جے توں پتی توحید دی مے پی لے اوہناں پیوں جو شہر یزید پتی

اوہ تو پی لے جمیل شبیر جیہڑی ہو کے کر بل دے وچ شہید پتی

کہدے نال میں تیری مثال دیواں جد کے بنی نہیں تیری مثال ساتی  
 تینوں چھڈ کے غیراں دے در جاواں میری کدوں اے اپنی مجال ساتی  
 لا کے چند تے جان نون نام تیرے عمر بُو ہے تے دیاں گا گال ساتی  
 کردے کرم جمیل دے حال اُتے تو یہوں جانناں ایں دلاں دے حال ساتی

جناں عشق رسول دی مے پیتی

صائم چشتی دا اوہناں ج نام اوندا

کیونکہ !

پاک آل رسول دے در اتوں صائم چشتی سرکار نے رنج پیتی  
 رکھ کے نبی دی آل دی حُب سینے کملی والے دے کرم تھیں سچ پیتی  
 سیدزادیاں دے دستِ پاک چم کے نال شوق دے صائم نے بھج پیتی  
 مے پاک جمیل اے پاک در دی  
 کر کے مُرشد دے در تے سچ کیتی

جہاں عشق رسول دی مے پیتی صائم چشتی دا اوہناں ج نام اوندا  
 صائم چشتی جے عاشقاں صادقوں لئی طیبہ پاک وچوں پاک جام اوندا  
 پہلے پیندا پلوندا فر دوجیاں نون تے رند تے ایسا مقام اوندا  
 ملدا عشق دا جام جمیل اوہنوں  
 بوے صائم دے جیہدا غلام اوندا

رینداں رکھیا میخانہ ہے نام جس وا  
 میرے ساتی دی مست جئی اکھ اے اوہ  
 لوگ جنہوں میخانہ جیہا آکھدے نے  
 مینوں دیندا سمندر جئی دکھ اے اوہ  
 کجیا ساتی نے میرے تے کرم جیہڑا  
 سارے جگ نالوں کجیا وکھ اے اوہ  
 دتا ساتی نے جام جمیل جیہڑا  
 اکو جام مینوں سوا لکھ اے اوہ

## وصال کی رات

☆ آئی رات وصال دی یارت ہن سورج چڑھن نہ دیویں  
 آج کی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے۔

☆ آئی رات وصال دی یارب ہن سورج چڑھن نہ دیویں  
 محمد مصطفیٰ دے نور دی جلوہ نمائی اے  
 سنو مستانیو دیدار والی رات آئی اے

☆ آئی رات وصال دی یارت ہن سورج چڑھن نہ دیویں  
 آج جہڑا اوہدا سوالی اے  
 اوہدی بھر نی جھولی خالی اے

ایہہ رات بڑی کمالی اے

اس رات دی شان نرالی اے

ایہہ رات طلاپاں والی اے

☆ آئی رات وصال دی یارت ہن سورج چڑھن نہ دیویں

میں جان دے کے وی دل دا اوہ جانی روک لوں

میں رات خوشیاں دی سبھی سہانی روک لوں

یہ شب وصال ہے

☆ آئی رات وصال دی یارت ہن سورج چڑھن نہ دیویں

ہر طرف ہے بارش خوشیاں دی ہر پاسے نور نظارے نے

اس رات چہ نور اوہ آیا اے جس نور دے سب چمکارے نے

☆ آئی رات وصال دی یارت ہن سورج چڑھن نہ دیویں

رہے جاگتے رات بھر ہم مسلسل

مگر لیلۃ القدر پھر بھی نہ دیکھی

فضاؤں کی مہک بتلا رہی ہے

میرا محبوب پیارا آرہا ہے

☆ آئی رات وصال دی یارت ہن سورج چڑھن نہ دیویں

صائم اُن کے وصل خاص کی

ہے گھڑی ملی ابھی ابھی

☆ آئی رات وصال دی یارِ تبہن سورج چڑھن نہ دیویں

سب انبیاء دے قائد و سالار آگے

مالک دے سارے ملک دے مختار آگے

اک دم جو ساری بزم وچہ پھیلی اے روشنی

محسوس ہندا رات اس سرکار آگے

☆ آئی رات وصال دی یارِ تبہن سورج چڑھن نہ دیویں

ہویا سال اڈیکاں کردیاں آج ماہی کرم کمایا

دید ہے آج ماہی دی ہونی ویلا وصل دا آیا

☆ آئی رات وصال دی یارِ تبہن سورج چڑھن نہ دیویں

عرش پر دھوم ہے فرش پر دھیم ہے

پھریہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے

اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے

سارا عالم مسرت سے معمور ہے

ابرِ رحمت ہیں محفل پہ چھائے ہوئے

خود محمدؐ ہیں تشریف لائے ہوئے

☆ آئی رات وصال دی یارِ تبہن سورج چڑھن نہ دیویں

تُو بھی صائم ذرا ہو جا نغمہ سرا

نورِ ربِّ العالیٰ آگیا آگیا

شہر یارِ زَمَنِ مَظہِرِ ذُو لَمَدَنِ  
 زینتِ ہر چمنِ رَوَاقِ اَجْمَنِ  
 حُسنِ کابلِ ہوا مَکِستانِ کَمَلِ اُٹھا  
 مُوجبِ گنِ فکاں سیدِ اِنسِ و جاں  
 سرورِ انبیاءِ مَظہِرِ کبریا  
 ویدِ دینے کو آج آگے مُصطَفٰی  
 حُسنِ مَسرورِ ہے عِشَقِ مَخمورِ ہے  
 ہر طرف نُورِ ہے ہر نَظَرِ طُورِ ہے  
 نُورِ ہی نُورِ ہے کیفِ ہی کیفِ ہے  
 حُسنِ خُودِ جلوہ گر آج کی رات ہے

☆ آئی رات وصالِ دی یارتِ ہُن سُوَرَجِ چڑھن نہ دیویں

آئی رات وصالِ دی مولا اس رات دی بات نہ مگے

☆ آئی رات وصالِ دی یارتِ ہُن سُوَرَجِ چڑھن نہ دیویں

رُخِ محبوبِ دا نکدے رہے تک تک وقت لنگھائیے

اج دی رات پیاری اندر وصلِ حبیبِ دا پائیے

☆ آئی رات وصالِ دی یارتِ ہُن سُوَرَجِ چڑھن نہ دیویں

حضراتِ گرامی! آج کی رات وصلِ کی گھڑیوں کی رات ہے اس

پیاری رات کی ایک ایک گھڑی سے فیضِ یاب ہونے کے لئے اور

پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بات سننے کے لئے میں دعوت نعت دیتا ہوں ایسے ثنا خوان رسول کو کہ جن کی آواز کا اعجاز ایسا ہے کہ یہ آواز ثنائے محبوب کے لئے وقف ہے تو دعوت نعت دیتا ہوں جناب قمر حسین قمر آف ہارون آباد کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہِ رحمۃ اللعالمین میں قصیدہ نور پیش کریں۔

## حضرت ابوطالبؑ

نمی پاک دا سچا پیار سوہنا سوہنے نمی دی جان این ابو طالبؑ  
 اوہدا ذکر اے دل نوں سرور دیندا دل دا میرے درمان این ابو طالبؑ  
 عاشق اوہنوں نیں سدا سلام کر دے سچے عشق دی شان این ابو طالبؑ  
 سوہنے نمی توں سوہنا فدا ہويا حیدر جان ایمان این ابو طالبؑ  
 اسی لیے توہم کہتے ہیں کہ !

ابو طالبؑ سرکار دی شان اعلیٰ  
 جہاں نمی توں کیجے جہاں صدقے  
 نمی پاک دے چاچے توں سدا کریے  
 اپنا مال قربان تے جان صدقے  
 وفاداری دی ایسی مثال دتی  
 کیجا نمی توں علیؑ ذیشان صدقے

حیدر ملاں ایمان دی گل کردا

ابو طالبؑ توں ساڈے ایمان صدقے

مرکز مہرو وفا ابو طالبؑ

والدِ مرتضیٰ ابو طالبؑ

عزیزانِ گرامی قدر ! حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ثناء خوانِ اول ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ وصی حضرت عبدالمطلب

ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ محبت و محبوب رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے پیارے چچا ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰؑ

کے والدِ گرامی ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ موحد صادق ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ عارف باللہ ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ ولی اللہ ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ کفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ وکیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ پیکر تقویٰ و طہارت ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ مجسمہ شرافت ہیں۔

☆ حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ اہل ایمان کے سردار ہیں

اور تمام ایمان والے آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جناب رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا ڈھنگ اہل ایمان کو بتایا اور سرکار

سے محبت کرنا قرآن و احادیث سے ثابت ہے اور حضور کی محبت کے بغیر

ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تو عزیزان گرامی قدر اس محبت کا سچا ثبوت دیتے

ہوئے اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بلند آواز سے دُرود

پاک کا ہدیہ پیش کیجئے !

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

لکھاں دُرود اُس تے لکھاں سلام اُس تے

جس شہنشاہ نونِ دینی نبیاں نے وی سلامی

ہر دم دُرود پڑھدا اللہ! نبی تے صائم

اللہ دی مصطفیٰ تے صلوات ہے دوائی

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

اللہ دی مصطفیٰ تے صلوات ہے دوامی  
آپ سب بھی بلند آواز سے بارگاہِ محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
میں صلوة پیش کریں !

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ

## ایک خوبصورت خمسه

حضرت علامہ صائم چشتی شاعر بے مثال ہیں۔  
حضرت علامہ صائم چشتی کا لکھا ہوا ہر کلام ہی بے مثل ہوتا ہے۔  
ان کی لکھی ہوئی نعتیں اور ان کا کلام شاعروں کی بھی راہنمائی کرتا  
ہے اور انہیں منزلِ علم و ادب مہیا کرتا ہے آپ کا ایک نہایت ہی خوبصورت  
کلام پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں۔

قیامت آئے گی سورج کے انکاروں کے جھرمٹ میں  
حدیثِ پاک ہے کہ سورج بالکل زمین کے قریب ہو جائے گا جب  
سورج اتنا قریب ہوگا تو زمین بھی انکارہ بن جائے گی۔

قیامت آئے گی سورج کے انکاروں کے جھرمٹ میں  
نظر ہراک کی کھوجائے گی نظاروں کے جھرمٹ میں

نہی سارے ہی ہونگے اپنے افکاروں کے جُہرمٹ میں  
 غرض ہوگا جہاں محشر کے آزاروں کے جُہرمٹ میں  
 محمد مُصطفیٰ ہوں گے گنہگاروں کے جُہرمٹ میں  
 اور !

رسائی فکرِ واعظ کی بیستوں کی فضا تک ہے  
 خرد کی انتہا گو یاجنوں کی ابتدا تک ہے  
 رسائی ابنِ مریم کی فقط چوتھے ساء تک ہے  
 بنا جبریل بھی ساتھی مقامِ منعمی تک ہے  
 محمد عرش پر پہنچے ہیں انواروں کے جُہرمٹ میں  
 جگہ حُجرہ ہے زاہد کی ملیں گے رند میخانے  
 گلوں کی ہمنشیں بلبلِ شمع کے گرد پروانے  
 رہِ محبوب میں اکثر بلا کرتے ہیں دیوانے  
 سنا ہے شاہوں کے ہوتے ہیں شاہوں سے ہی یارانے

مگر مولا علی! کون علی!

☆ تاجدارِ اہلِ اقی علی

☆ شاہِ دوسرا علی

☆ محبوبِ محبوبِ خدا علی

☆ ابوتراب علی

☆ شہر علم کے باب علی

☆ ناطق قرآن علی

☆ حامی رحمان علی

☆ سید و سلطان علی

☆ اشرف و ذیشان علی

☆ ابوطالب کے ولدار علی

☆ مومنین کے سردار علی

سنا ہے شاہوں کے ہوتے ہیں شاہوں سے ہی یارانے  
مگر مولا علی ملتے ہیں ناداروں کے جھرمٹ میں  
عزیزانِ گرامی قدر! ہر شخص چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب حاصل  
ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کو پانے کے لئے کیا کیا آزمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں  
ملاحظہ فرمائیں۔

بے تھے آگ کے شعلوں میں خالق کو خلیل اللہ  
بے تھے زیرِ خنجر حضرتِ حق کو ذبح اللہ  
بے تھے وادیِ سینا کی چوٹی پر کلیم اللہ  
بے تھے چرخِ چہارم پر تھے مانا اُس کو روح اللہ  
بے تھے شبیرِ لیکن حق کو تلواروں کے جھرمٹ میں  
عزیزانِ گرامی قدر! ایک جھرمٹ وہ بھی ہے کہ آقا نے صحابہ

کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں وہ منظر کیسا ہوگا؟

وہ منظر پیارا منظر ہوگا۔

وہ منظر نہایت دلآویز منظر ہوگا جب خود رسول العالمین صلی اللہ علیہ  
والہ وسلم اپنے پیاروں کے جھرمٹ میں ہوں گے اہل منظر کو حضرت علامہ  
صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مقطع میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا منظر ہے۔

خوشا صلی علی ہر سوترانے حوروں نے گائے

فرشتے آسماں سے یہ نظارا دیکھنے آئے

بُتوں کو آگیا لرزہ قدم شیطان کے تھرائے

ہوا مدہم قمر صائم ستارے سارے شرمائے

محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر یاروں کے جھرمٹ میں

اسی لئے آپ فرماتے ہیں !

کر سکو گے کس طرح اُن سے صحابہ کو جدا

گرد مدنی چاند کے تاروں کا ہالہ چاٹنے

ہوا مدہم قمر صائم ستارے سارے شرمائے

محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر یاروں کے جھرمٹ میں

اب وقت بھی ایسا ہے کہ میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ اب ایک کے

سامنے اُس ثناخوان رسول کھینچ کر دوں کہ جن کی محبت میں میرا اور آپ سب

کے دل ڈوبے ہوئے ہیں تو تشریف لاتے ہیں ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناخوان رسول واجب الاحترام جناب قاری محمد شاہد صاحب شاہد صاحب جن آواز میں ریلز ہونے والا ہر کیسٹ لاکھوں کی تعداد میں سیل ہوا جناب قاری شاہد محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی ہے جو سننے والوں پر بے حد اثر کرتی ہے یہی وجہ کہ آپ مقبول عام شہداء خوان ہیں ان کا تعارف ان الفاظ میں کروا تا ہوا ان کو دعوت دوں گا کہ قاری شاہد محمود قاری قرآن بھی ہیں اور نبی کریم کے ثناخوان بھی ہیں۔

قاری شاہد محمود غلام محبوب رحمان بھی ہیں اور خادم شیر یزدان بھی۔  
 ☆ قاری قاری محمود سراپا وجدان بھی ہیں اور ذوق کا سامان بھی۔  
 ☆ قاری شاہد محمود سوز کی برہان بھی ہیں اور گداز کا درمان بھی۔  
 تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب،

### سیدہ زینب علیہا السلام

حضرت سیدہ زینب علیہا السلام مولائے کائنات کی صاحبزادی ہیں  
 سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر ہیں آپ نے جس طرح اپنے  
 بھائی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امتحان کر بلا دیا اس کی  
 مثال نہیں ملتی۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کا امتحان تو کر بلا کے میدان میں ختم وہ

گیا لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا امتحان تب بھی جاری رہا اور جب تک آپ کی ظاہری حیات مبارکہ رہی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آئی اور آپ اس پر ساری حیات مبارکہ استقامت پر رہیں۔

حضرت سیدہ زینب بنتِ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں۔

حضرت سیدہ زینب پیکرِ صبر و استقلال ہیں۔

حضرت سیدہ زینب آلِ رسول الثقلین ہیں۔

حضرت سیدہ زینب نُورِ نُورِ چشمِ رحمۃ للعالمین ہیں۔

حضرت سیدہ زینب حضرت ابوطالب کے گھر کی بہار ہیں۔

حضرت سیدہ زینب اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔

حضرت سیدہ زینب وارثِ سیدۃ النساء ہیں۔

اک راہِ حق میں صد ہا مصیبت قبول کی

زینب کو مل رہی ہے وراثتِ بشول کی

حضرات گرامی غور فرمائیں سیدہ زینب علیہا السلام کے حوصلہ کا کہ کیا

امتحان تھا کبھی غم و محمد کو بھیجا تو کبھی اپنی گود کے پالے بھتیجے علی اکبر کو میدان

کربلا میں بھیجنے کا حوصلہ تھا تو فقط ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا

کا تھا اور پھر اپنے بھائی امام وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش

مبارک کا پہرا دینا کس کے بس کی بات تھی لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ

جب امام عالی مقام شہید ہوئے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دل پر کیا

گذری ہوگی۔

تک ویرن دے لاشے تائیں تڑپ گئی ہمیشہ  
سیدہ روتی ہیں اور امام عالی مقام کی لاش مبارک کو مخاطب کر کے

کہتی ہیں !

اک تے گلِ آخری کر لے بھین لٹی دیا ویرا

بھین غریب دیاں آج سدھراں ٹکیاں میرا ویرا

عزیزانِ گرامی !

سُن کے غم شبیرِ دا اُتھرو وگن جیویں پرناہ

انج سُن تیر سید دے سُن تے جیویں جن دے گردے ہالہ

جو سی ازی حصّہ صائم اوہ پئی لیا سُرخ پیالہ

نُنب ویرتوں وچھڑی جیویں کوئی بھین نہ وچھڑے شالہ

حضراتِ گرامی ! سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی

کی پرورش اُس ماں نے کی تھی کہ جن سے بہتر عورت کوئی جہان میں نہیں ہے

بلکہ !

کی پاکیزگی جس سے خوروں نے حاصل ہے عصمت سراپا محمد کی بیٹی

ہے بلقیس و مریم سے بھی شان والی وہ ذی شان زہرا محمد کی بیٹی

سبحان اللہ !

تو جب پرورش کرنے والی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہوں تو بیٹی بھی

پھر سیدہ زینب علیہا السلام ہی ہونا تھیں آپ نے ایسا امتحان دیا جس کی مثال کوئی مورخ پیش نہیں کر سکتا۔ ایسی بہن کہ ایسی بہن کسی کی نہیں ہے اگر بھائی حسین ہے تو بہن بھی زینب ہے۔

گھل کے مقتل دے وُلّ دونویں لختِ جگر

کہا زینب نے رَبّا ہے تیری نظر

میری محنت دا اَج مینوں ملیا شمر

میری اولاد ویراں دے کَم آ گئی

کربلا کی ہر ہر گھڑی امتحان میں گذر رہی ہے بیٹوں کی قربانی پر

تو سیدہ نے آنسو بھی نہیں بہائے لیکن وہ علی اکبر جو شبیہ رسول تھے جنہیں

سیدہ زینب نے گود میں پالا تھا جن کی اجازت امام عالی مقام نے اجازت

زینب سے مشروط کر رکھی تھی جب علی اکبر علیہ السلام کی لاش مبارک خیمے

میں آئی تو سیدہ زینب نے کیسا امتحان دیا ہوگا۔ امام عالی مقام اپنے جوان

صاحبزادے کا لاش مبارک لیکر خیمے میں آئے اور فرمایا !

لے اکبر دا لاش سید جد خیمے وُلّ آیا

تڑپ پئے آسمان سی سارے مکاں ہوش ونجایا

بھین زینب ٹوں آکے صائم سید نے فرمایا

بھیناں لٹ لیا ای تیرا کوفیاں گھل سرمایا

جب خود امام عالی مقام روانہ ہوتے ہیں !

نُصَب نُؤُں مَلِ اٰخِرِيْ جِسِّ دَمِ حُسَيْنِ چَلِيَا  
 رُو رُو كِے كِهِيَا نَضَب مِّنْ دَلِ دَا چَمِيْنِ چَلِيَا  
 رُوئِ زَمِيْنِ صَاآَمِ اَسْمَانِ رُو رِهِيْ نِے  
 زِهْرَا دِے نُورِ پَارِے قُرْبَانِ هُو رِهِيْ نِے

تیراں دی زد تے ناطق قرآن آ گیا اے

## حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام

عزیزانِ گرامی! محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ تک تمام مہینے  
 حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہیں جو لوگ ذکرِ حسین کو صرف محرم الحرام  
 کے مہینے تک محدود رکھتے ہیں ایسے لوگ ناانصافی کرتے ہیں۔

☆ ذکرِ حسین سارا سال ہی کرنا چاہیے۔

☆ ذکرِ حسین برکتوں رحمتوں رفعتوں عظمتوں والا ذکر ہے۔

☆ ذکرِ حسین غموں سے نجات دیتا ہے۔

☆ ذکرِ حسین عبادت ہے۔

☆ ذکرِ حسین سُنَّتِ رَسُوْلِ ہے۔

☆ ذکرِ حسین نجات کا وسیلہ ہے اور نجات حاصل صرف ایک مہینے

میں ہی ضروری نہیں بلکہ سارا سال ہی حاصل کرنی چاہیے۔

امام عالی مقام کا غم دراصل رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہے

اور یہ غم یہ جو سارا ہی عاشقانِ رسول کے غموں کو دور کرتا ہے۔

آجاندا جدوں صائم شبیرِ دا غمِ دل وچہ

جاندا اے مرے سارے درداں وی دوا کر کے

کیا غم کبھی کبھارا آتا ہے؟ اس کا جواب بھی

حضرت علامہ صائم چشتی ایک شعر میں دیتے ہیں کہ غمِ حسین کسی

ایک دن کے لئے نہیں آتا غمِ حسین ایک مہینے کے لئے نہیں آتا بلکہ،

دِلاں وچہ تازہ غم رہندا اے سارا سال کربلِ دا

قلمِ دا سینہ پھٹ جاندا لکھے جد حال کربلِ دا

آج بھی تاریخ کے اوراقِ ذکرِ حسین سے چمک رہے ہیں۔

وچ تاریخ دے چمکن اج تک بن کے اوہ تنویراں

خون دے نال جو لکھیاں سیدِ کربلِ وچ تحریراں

دین لئی نیزے بر چھیاں جھلے نازک نرم سریراں

دیکھے ظلم سید تے صائم تڑپ گھیاں تقدیراں

خدا جانے کی راز ہے ایہہ خدا دا

کہ ہے واقعہ عجب کرب و بلا دا

ہر پاسے وٹھ دا نور گھیا ظلماتِ دا بینہ چھر گیا

لنگھ جھڑیاں جھڑیاں راہوان توں زہرا دا بدر منیر گیا  
 شبیر دے لوں لوں وچہ صائم قرآن انج زچیا ہو یا سی  
 سر نیزے چڑھیا ہو یا وی قرآن دی کر تفسیر گیا  
 کون حسین؟ ناطق قرآن حسین

☆ سید و ذیشان حسین

☆ اسلام کی برہان حسین

☆ ہم سب کا ایمان حسین

☆ کربلا کے سلطان حسین

☆ اہل وفا میں پہلے! ام حسین یعنی کربلا والوں میں

☆ اہل جنت کے دوسرے سردار حسین۔ پہلے امام حسن

☆ آئمہ کرام میں تیسرے حسین۔ پہلے علی دوسرے حسن

☆ محبوبان رسول میں چوتھے حسین پہلے فاطمہ دوسرے علی تیسرے

حسن،

☆ اہل کسا میں پانچویں حسین پہلے رسول دوسری بی بی پاک

تیسرے علی چوتھے حسن،

عزیزان گرامی! کون ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شان و

عظمت کا حقہ بیان کرنے کا دعویٰ کر سکے؟ ارے جن پرورد بھیجے بغیر اللہ

تعالیٰ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی ان کی عظمت کو سوچنے والا کوئی ذہن نہیں ہو

حقیقت ہے کہ،

☆ حسین بے مثال ہے۔

☆ حسین بجا ہے

☆ حسین ہماری ڈھال ہے۔

☆ حسین باجمال ہے

☆ حسین باکمال ہے

☆ حسین میرا دین ہے۔

☆ نبوت کا نگین ہے۔

☆ حسین درِ شمیم ہے۔

اے حسین ابن حیدر اے سبطِ نبی دینِ حق کو بچانا تیرا کام ہے  
 ڈوبنے کو سفینہ تھا اسلام کا پار اُسکو لگانا تیرا کام ہے  
 جس جگہ بھی ترا خونِ اقدس گرا پھول کھلتے گئے گلستاں بن گیا  
 دشتِ کربل کی جلتی ہوئی ریت کو رشکِ جنت بنانا تیرا کام ہے  
 لاکھوں حافظ بھی ہیں پاک قرآن کے لاکھوں قاری بھی دُنیا میں آئے مگر  
 سر کو سجدے میں کٹوا کے نیزے پہ پھر پڑھ کے قرآن سنانا تیرا کام ہے  
 تیرے بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب کس بلندی پہ ہو گا ترا حوصلہ  
 ڈال کر موت کی آنکھ میں آنکھ کو یوں شہا مسکرانا تیرا کام ہے

ہم پہ احسان کتنا ہے آقا تیرا اپنا سب کچھ لٹایا ہمارے لئے  
اپنے بچوں کو پیاسے ہی کر کے وداع ہم کو کوثرِ پلانا تیرا کام ہے  
میرا دامن تو خالی ہے اعمال سے پاس کچھ بھی نہیں تیرے غم کے سوا  
حشر کے روز صائمِ خطا کار کو لے کے جنت میں جانا تیرا کام ہے

تاجدارِ کر بلا اے شہسوارِ کر بلا  
کر دیا فردوس تو نے ریگ زارِ کر بلا  
تیرے اشکوں کی سلامی کو ستارے آگئے  
سید السادات عابدِ اشکبارِ کر بلا  
اے حسین ابنِ علی اے ولفگارِ کر بلا  
تجھ کو دیتے ہیں سلامی آسماں والے سبھی  
شانِ ارفع ہے تیری کتنی دیارِ کر بلا  
روز و شب جاری ہے صائمِ اشکباری یہ تری  
تیرا رو تا کب تھے گا بیقرارِ کر بلا  
عزیزانِ گرامی! غمِ حسین میں آنکھوں سے بہنے والا ہر آنسو  
مغفرت و نجات کا ٹکٹ ہے اگر ہم رسول و آلِ رسول سے سچی محبت رکھیں تو  
یقیناً ہماری نجات ہو جائے گی۔

کیونکہ حسین محبوبِ رسول بھی ہیں اور محبوبِ خدا بھی ہیں حسین

شہیدوں کے سردار بھی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں کوئی شخص بوڑھا نہیں ہوگا تمام نوجوان ہوں گے۔

ایک صاحب کہنے لگے جناب ایک بات بتائیں سب جنت میں تمام نوجوان ہی ہوں گے تو یقیناً حضرت علی بھی نوجوان ہوں گے میں نے کہا ہاں کہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جوان ہوں گے تو ان کا مرتبہ کیا ہوگا جبکہ نوجوانوں کے سردار تو امام حسین ہیں تو میں نے کہا اے کم فہم غور کر! حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں اور علی المرتضیٰ وہاں جنت کے سردار کے والد گرامی ہیں جناب رسول اللہ مالک جنت ہیں جنہوں نے جنت کی سرداری امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اس لئے ان کے درجے میں حسین علیہ السلام کے سردار ہونے سے کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی،

تو بارگاہِ امامت میں سلام پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب سائیں محمد رفیق چشتی قلندری صاحب۔

حضرات گرامی! امام حسین علیہ السلام شہداء کے بھی سردار ہیں اور صابریں کے بھی امام ہیں حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کندھ عزم دی صبر دا بحر ڈوہنگا پیکر سخی سید استقلال دا اے کر بل وچہ جو آیا ظہور اندر راز خاص ربّ ذوالجلال دا اے

نُجھن گئی سی شمعِ اسلام والی خونِ پاک کے مڑ کے بالِ دا اے  
 لوکی وقتِ زوالِ دا سمجھ بیٹھے سید آکھیا وقتِ وصالِ دا اے  
 پیشی وقتِ دربارِ وچہ پیش ہو کے ربِّ عالمِ نوں لاشاں وکھالِ دا اے  
 منگیا وصلہ کہ نانے وی بخش اُمت کیڈا حوصلہ علی دے لالِ دا اے

## یزید کا کفر

حضرات گرامی!

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف 'جان بہار' میں  
 ایک نعتیہ قصیدے میں بارگاہِ سرورِ کونین میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور آپ  
 سے التجا کرتے ہیں

حضورِ رحم کہ سُنی بھی خارجی ہو کر

ملے ہیں جاتے تسلسل سے بے لگاموں میں

عزیزانِ گرامی!

آج بعض سنی کہلوانے والے یزید کے حامی بنے ہوئے ہیں بلکہ  
 معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ یزید جس کو امیر المومنین کہنے والے شخص کو  
 حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوڑوں کی سزا دی تھی اُس یزید لعین کے بارے  
 میں نرم گوشہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کربلا میں امام

عالی مقام اور ان کی آل پر ظلم و ستم اور ان کی شہادتوں میں یزید شامل نہیں تھا اور اس کا کوئی قصور نہ تھا۔

یزید تا صرف بے گناہ تھا بلکہ اچھے کردار کا مالک تھا۔

عزیزانِ گرامی!

اگر یزید اچھا ہوتا تو امام احمد بن حنبل کبھی اُس پر کفر کا فتویٰ صادر نہ فرماتے اگر یزید اچھا ہوتا تو اس کے حامی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کوڑے نہ لگواتے۔ اگر یزید اچھا ہوتا تو چودہ سو سال کے علمائے اخیار اولیائے کبار کبھی یزید پر لعنت کو جائز نہ سمجھتے۔

واقعہ کربلا سے یزید کو بری الذمہ قرار دینے والے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یزید کے بارے میں کبھی نرم گوشہ نہ رکھیں۔ واقعہ کربلا کے علاوہ واقعات حرہ اور کعبہ اللہ پر چڑھائی کرنا اتنے بڑے جرائم ہیں جو یزید لعین اور اس کی فوج کو کافر قرار دینے کے لئے کافی ہیں۔

یزید مُحَرَّمات سے زنا کرنے والا تھا۔

یزید اعلانیہ شراب نوشی کرتا تھا۔

یزید اسلام کا باغی تھا۔

یزید رسول اللہ کا دشمن تھا۔

یزید قرآن کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔

جو لوگ یزید کو اچھا جانتے ہیں لازماً ان کے سینے میں بغضِ رسول

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

حضرات گرامی! آج مجھے کہنے دیجئے یہ تبلیغ ہے یہ میرا حق ہے یہ

محبتِ اسلام کا تقاضا ہے کہ میں کہوں یزید خبیث ہے۔

یزید لعین ہے۔

یزید کفر کی علامت ہے۔

یزید بے ایمان اور خارجی تھا۔

یزید ظالم اور لعنتی تھا۔

یزید صرف کافر نہیں تھا بلکہ خبیث ترین کافر تھا۔

یزید ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جو اللہ کے باغی ہیں۔ جو

اللہ کے دین کے باغی ہیں اسی لئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

موسیٰ و فرعون و شبیر یزید

ایں دو قوت از حیات آمد پدید

جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔

جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا۔

جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم آئی۔

جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہود آئے۔

جیسے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں

ابو جہل آیا جیسے حق کے مقابلے میں باطل آیا ویسے ہی حق و باطل کی جنگ

ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید لعین آیا یزید کے  
سیارہ کارناموں میں واقعہ حرہ کو معمولی واقعہ نہیں ہے اس کی تفصیل جذب  
القلوب اور خلاصۃ الؤفا میں موجود ہے۔

عزیزان گرامی! یزید تو ایسا کمینہ اور خبیث انسان تھا جسے انسان کہنا  
بھی انسانیت کی توہین ہے۔

حضرات گرامی! یزید کا مقصد اسلام کو ختم کرنا تھا مگر امام عالی مقام  
نے اُس کا مقصد فیل کر دیا اور امام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے حضرت  
علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مقصد حسین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔

☆ یزید کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا۔

☆ حسین کا مقصد اسلام کو بچانا تھا۔

☆ یزید کا مقصد تھا شریعت کی حدود کو توڑا جائے۔

☆ حسین کا مقصد تھا نفاذ اسلام کی تکمیل ہو جائے۔

☆ یزید کا مقصد تھا حکومت کی بالادستی قائم کی جائے۔

☆ حسین کا مقصد تھا شریعت کی بالادستی قائم رہے۔

☆ یزید کا مقصد تھا حرمت قرآن کو نیلام کیا جائے۔

☆ حسین کا مقصد تھا قرآن کا احترام کیا جائے۔

☆ یزید کا مقصد تھا حق خود ارادیت چھین لیا جائے۔

☆ حسین کا مقصد تھا حق خود ارادیت کا تحفظ لیا جائے۔

- ☆ یزید کا مقصد تھا حسین حق کی آواز روک لے۔
- ☆ حسین کا مقصد تھا حق کا بول بالا ہو جائے۔
- ☆ یزید کا مقصد تھا حسین میری غیر اسلامی حکومت تسلیم کرے۔
- ☆ حسین کا مقصد تھا اسلام میں کفر کو خلط ملط نہ ہونے دیا جائے
- ☆ یزید چاہتا تھا حسین نے میری ہاں میں ہاں ملائی تو میری بات

بن جائے۔

- ☆ امام حسین کا مقصد تھا اگر ایسا ہوا تو اسلام کی بات بگڑ جائے گی۔
- ☆ یزید چاہتا تھا جبر و تشدد کی حکومت ہو۔
- ☆ امام حسین چاہتے تھے کہ انصاف کی حکومت ہو۔
- ☆ یزید کا مقصد تھا کہ جسموں پر حکومت کی جائے۔
- ☆ امام حسین کا مقصد تھا رُوحوں پر حکومت کرنا۔
- ☆ یزید شیطان کی طرف شیطان تھا۔
- ☆ امام حسین کی طرف رحمان تھا۔

شاعر سردار حسین سردار یزید بے دین کے حامیوں کے بارے کہتے

ہیں کہ !

اج توں تیرہ سو سال دے بعد مُرد کے حامی اُنھے یزید مکار دے نے  
 کہدے پئے یزیدی حق اُتے دشمنی دین دے جھکھاں پئے مار دے نے  
 جہڑا آکھے یزید تے نہیں کافر کرو منصفی اوہدا ایمان کی اے

پاس کرے یزید دا جو مُلاں اوہدی بخشش دا دستاویز کی اے  
 اوس مُلاں تُوں ست سلام میرا جہدا ووٹ یزید لعین دے ول  
 اکھاں سامنے حق تُوں ویکھ کے تے جھکی جاندا اے ظالم بے دین دے ول  
 کوئی شک نہیں اوس دے کفر اندر جہدا کفر تُوں کفر پکاروا نہیں  
 کافر کافر یزید پلید کافر نکتہ غلط ایہہ شاعر سردار دا نہیں  
 کافر کافر یزید پلید کافر نکتہ غلط ایہہ شاعر سردار دا نہیں

اور حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں !

سَدھی گل میں تے کرنی جاڈا ہاں  
 لمی چوڑی تمہید توں ڈر اوندنا  
 جس وچہ ہووے نہ ٹھوس دلیل کوئی  
 مینوں ایسی تردید توں ڈر اوندنا  
 غلطی اُتے حسین یزید حق تے  
 آکھن والے یزید توں ڈر اوندنا  
 جس وچہ ہووے توہین حسین صائم  
 مینوں ایسی توحید توں ڈر اوندنا

راز کر بل دا عقل جے کھول سکدی پیدا کدی نہ رُوح یزید ہندی  
 سو دے ہندے نہ جنت دے تے نال سراں دے جنت خرید ہندی

حضرات گرامی! یزید بلاشبہ کافر ہے اس کے بارے میں شک کرنا جرمِ عظیم ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ امامِ اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت کیا ہے بالکل جھوٹ بولتے ہیں چنانچہ صاحب کی کسی بھی کتاب سے یزید کے بارے میں سکوت کرنا موجود نہیں ہے جہاں تک یزید کے کفر کی بات ہے تو اس کا اقرار کفر موجود ہے جس کے بعد کسی کے بھی سکوت کی گنجائش نہیں ہے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام عالی مقام کا سرِ انور اور اہلبیت کے افراد اور بارِ یزید میں پہنچے تو یزید لعین نے امام عالی مقام کے کٹے ہوئے سرِ انور کو سامنے رکھ کر نفرت و حقارت سے چہرہ انور پر چھڑی ماری اور بڑے غرور اور نخوت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے اولادِ رسول سے جنگِ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔

﴿البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ نمبر ۱۹۴﴾

اس اقرار کے بعد یزید کے کفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کیونکہ جنگِ بدر میں حضور کے مقابلے میں کافر تھے اور انہیں کافروں کا بدلہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے کا اقرار یزید لعین کے کافر ہونے پر دلیل ہے جو لوگ آلِ رسول کو ماننے والے ہیں۔

☆ جو لوگ آلِ رسول کے محبت ہیں۔

☆ جو لوگ قرآن پاک پر عمل پیرا ہیں۔

☆ جو لوگ احادیثِ رسول کے پیرو ہیں۔

وہ کبھی بھی یزید کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں رکھ سکتے اپنے  
 عقیدے کو درست رکھیں اور آل رسول کی غلامی کا دم بھریں بروز قیامت یزید  
 کام نہیں آئے گا بلکہ حضور اقدس کی محبت اور آل رسول کی مودۃ کام آئے  
 گی۔

## آقا کی بات

حضرات گرامی !

- ☆ بات ہو رہی ہے تاجدارِ انبیاء کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے زینتِ ارض و سما کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے محبوبِ کبریا کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے سرچشمہٴ نُوْرِ خاور کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے مالکِ زمزم و کوثر کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے سراجِ منور کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے مالکِ ماہِ اختر کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے خیر البشر کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے سید و سرور کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے خلق کے رہبر کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے ساتیِ کوثر کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے ربِّ کے پیغمبر کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے انبیاء کے افسر کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے عبد اللہ کے دلبر کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اعلیٰ و افخر کی۔

- ☆ بات ہو رہی ہے بدرِ منور کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے رسولِ ابرار کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے احمدِ مختار کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے حبیبِ کردگار کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اُمت کے عنخوار کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے حضور کے کمال کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے آقا کے جلال کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے مدنی کے جمال کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے مولیٰ کی آل کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے بے مثل و بے مثال کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے ہمارے لچپال کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے کعبہٴ ایمان کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے نبیوں کے سلطان کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے رب کی برہان کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے سید و ذیشان کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے گلِ غیبِ دان کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اخترِ تابان کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے مالکِ جنان کی۔

- ☆ بات ہو رہی ہے خاصہ خاصان کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے ہم سب کے موٹی کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے ہم سب کے آقا کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے نبیوں کے ڈولہا کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے جہان کے داتا کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اعلیٰ واولیٰ کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے بجا و ماویٰ کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے شفاعتِ مُصطفیٰ کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے محبتِ مُصطفیٰ کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اطاعتِ مُصطفیٰ کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے رسالتِ مُصطفیٰ کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اُن کی طہارت کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اُن کی عظمت کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اُن کی رفعت کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اُن سیادت کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اُن کے مدینے کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اُن کے پستینے کی۔
- ☆ بات ہو رہی ہے اُن کے رحم کی۔

☆ بات ہو رہی ہے اُن کے کرم کی۔

میرے آقا کرم کی بات ہے

سامنے سب کے وہی اک ذات ہے

حضراتِ گرامی! جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات

ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس بات کرنے والے پر راضی ہو جاتی ہے۔

جب مُحَمَّد کی بات ہوتی ہے

خُوش خُدا کی بھی ذات ہوتی ہے

اُن کے کہنے سے وَن لکنا ہے

اُن کے صدقے سے رات ہوتی ہے

## سرکار کے صحابہ

حضراتِ گرامی! حضرت سیدنا مُحَمَّد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

پیارے صحابہ سارے ہی شان و عظمت کے حامل ہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ہم سرکار کے

سارے غلاموں کے غلام ہیں اُن کے تمام صحابہ کرام کے غلام ہیں ہم سرکار

کے صحابہ میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو

شان بھی عطا فرمائی ہے اور عظمت بھی عطا فرمائی ہے۔

☆ حضور کے صحابہ محبت والے ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ! عقیدت والے ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ! عظمت والے ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ! رحمت والے ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ! انعام والے ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ! اکرام والے ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ! مقام والے ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ! حضور کے یار ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ! حضور کے جانثار ہیں۔

☆ حضور کے صحابہ ہر مشکل وقت میں حضور کے کام آئے حالانکہ

آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو خود ہی اپنے اختیاراتِ مقدّسہ

کے اُن مشکلات کو ختم کر دیتے لیکن آپ نے ایسا نہ کیا اس لئے کہ آپ نے

اپنے غلاموں کو مقام و مرتبہ عطا فرمانا تھا اس لئے اُن سے خدمت حاصل

کی۔

حضرات گرامی! غور فرمائیں جنہیں بنفس نفیس سرکارِ مدینہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اُن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔

جنہوں نے آفتابِ نبوت کی شعاعوں سے فیضِ نور حاصل کیا اُن

کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

صدقے اوہناں توں جہناں نے دیکھیاں نیں عربی جتن دیاں عنبر بارز لقاں  
نالے جہناں دے سائمنے ہین ہوئیاں نازل آئیاں اُمّ الکتاب دیاں

کشتی نُوح حضور دی آل ساری اُمّت لئی ذریعہ نجات دا اے  
تارے چمکدے ہین اصحاب سارے ایہہ بشارتاں نے آنجناب دیاں

نہ کوئی مثلِ محمد دی آل دی اے ناں ای مثالی اصحابِ رسول دی اے  
حاصلِ نسیباں خاص نے دوہاں تائیں مائی آمنہ دے ماہِ تاب دیاں

اوہناں جہیا نہیں اُمّت دے وِج کوئی عظمت شانِ اکرامِ عظیم والا  
نبی پاک بشارتاں دیتیاں نیں جہاں جہاں نوں روزِ حساب دیاں

کیوں ناں وانگ ستاریاں چمک جاندے بختِ نبی دے پاک اصحابیاں دے  
جاچاں جہاں نے سکھیاں نبی کولوں اہل بیت دے ادبِ آداب دیاں

صائم حدِ بیان وِج کیوں آوے شانِ حسن وِ حسین شہزادیاں دی  
دیتیاں رَبِّ سرداریاں جہاں تائیں بارغِ جنت دے اہلِ شباب دیاں  
ہم صحابہ کرام کے غلام بھی اور آلِ رسال کے بھی غلام ہیں۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں !

اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور  
عجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی  
حضرات گرامی ! ہر انسان کے بیان کا انداز مختلف ہوتا ہے طرب  
احمد صدیقی مسجد نبوی کو مخاطب کرتے ہیں کہ

مسجد نبوی تو ہی بتا کچھ سماں وہ کیسا پیارا ہوگا  
صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا  
بزم نبوت میں صدیق بھی فاروق و عثمان و علی بھی  
چاروں یار ستارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا  
اور حضرت علامہ صائم چشتی اُن لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو صحابہ  
کرام سے دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔

آپ کہتے ہیں کہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنو !  
کرسکو گے کس طرح اُن سے صحابہ کو جدا  
گرد مدنی چاند کے تاروں کا ہالہ چاہیے

☆ شان میں ارفع! سارے صحابہ

☆ اعلیٰ و بالا ! سارے صحابہ

☆ اُن کا صدقہ سارے صحابہ

☆ سب کے آقا سارے صحابہ

☆ حُسنِ دلِ آرا سارے صحابہ

☆ نُورِ اُجالا سارے صحابہ

☆ چَینِ سراپا سارے صحابہ

☆ انجمنِ آراء سارے صحابہ

☆ فیضِ کادریا سارے صحابہ

☆ نُورِ خزانہ سارے صحابہ

☆ جانِ تمنا سارے صحابہ

☆ ہم کا وسیلہ سارے صحابہ

☆ ہم کی تمنا سارے صحابہ

اصحابِ محمدؐ کی کیا شانِ نرالی ہے

☆ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔

☆ حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔

☆ عثمان کو ذوالنورین بنا دیا۔

☆ حبشی کو بلالِ عالی بنا دیا۔

☆ فارسی کو اہل اللہ بنا دیا۔

☆ خالد کو سیف اللہ بنا دیا۔

☆ ابو دجانہ کو امجد الشجاع بنا دیا۔

☆ بلال کو موذنِ اول بنا دیا۔

☆ زید بن حارثہ کو ابن رسول بنا دیا۔

☆ حنظلہ کو غسل الملائکہ بنا دیا۔

☆ حمزہ کو سید الشہد ابنا دیا۔

☆ سلمان فارسی کو عارف باللہ بنا دیا۔

☆ ابوذر غفاری کو فتانی اللہ بنا دیا۔

☆ اصحاب صفہ کو شان دے دی۔

☆ اصحاب بدر کو مقام دے دیا۔

☆ اصحاب احد کو مرتبہ دے دیا۔

☆ اصحاب خنین کو عظمت دے دی۔

☆ اصحاب رضوان کو رضادے دی۔

☆ اصحاب مہاجرین کو شفاعت دے دی۔

☆ اصحاب انصار کو رحمت دے دی۔

سب اصحاب حضور دے ہیں اعلیٰ

سازے آن والے سارے شان والے

اس لئے کہتا ہوں !

اصحاب محمد کی کیا شان نرالی ہے

حضرات گرامی! ہمارا صحابہ کے بغیر نہ تو چارا ہے اور نہ ہی گزارا

ہے کیونکہ ہر صحابی رحمتوں کا اشارا ہے اور اہل سنت کا سہارا ہے۔

اصحاب محمد کی کیا شان نرالی ہے

ہر عاشق صادق میں تو رنگ بلالی ہے

تو اب تشریف لاتے ہیں عشق کی رسول کی بات کرنے دُنیا پور سے

تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناخوان رسول جناب حافظ ظفر اقبال

سعیدی صاحب کہ جن کی آواز بے مثل و بے مثال ہے بلکہ باکمال ہے یہ

ثناخوان پُر جمال حافظ ظفر اقبال ہے تشریف لاتے ہیں چہرے پر نورانیت

لئے ہوئے نسبت سعیدی سے مالا مال حافظ ظفر اقبال سعیدی۔

## غریبوں کے آقا فقیروں کے والی

حضرات گرامی ! امیروں سے دوستی ہر کوئی کر لیتا ہے مگر غریبوں

اور مفلسوں ناداروں کے ساتھ نبھانا جد ارا نبیاء کا کام ہے۔

عزیزان گرامی ! ساری کائنات حضور کی محتاج ہے۔

ساری کائنات حضور کی گدا ہے۔

ساری کائنات حضور کی مانگت ہے۔

ساری کائنات حضور کی سائل ہے۔

ساری کائنات غریب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے

امیر ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے زیادہ دولت مند ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدارِ کائنات ہیں لیکن آپ غریبوں سے محبت فرماتے ہیں۔

آپ فقیروں سے پیار فرماتے ہیں۔

آپ ناداروں سے محبت فرماتے ہیں۔

آپ مفلسوں سے محبت فرماتے ہیں۔

سارا جہان آپ کا مانگت ہے اور آپ تمام جہان کو بھیک دیتے ہیں۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

منگتا جہان سارا آقا تیری گلی دا

اور ایک جگہ فرماتے ہیں !

تیرے در پہ خیر کثیر ہے

تیرے در کا صائم فقیر ہے

دے بدل تو میرے نصیب کو

ملے بھیک صائم غریب کو

اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سے بھیک طلب کرنے

والے کو کس قدر جلدی بھیک ملتی ہے غور کریں۔

منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی  
 دُوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے  
 اور پھر کہتے ہیں کہ !

سرکار ہم گنواروں میں طرزِ ادب کہاں  
 ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے  
 اور حضرت علامہ صائم چشتی سائل کو بھیک دینے کے لئے سرکار  
 مدینہ کی عطا کی بات بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں کہ۔

دربارِ مُصطفیٰ کی بخشش کا ہے یہ عالم  
 سائل کو ہیں وہ دیتے اُس کی صدا سے پہلے  
 اور ایک جگہ اس سے بھی اوپر کی بات کرتے ہیں !

ایسے سخی کے در کے صائم ہیں ہم بھکاری  
 دیتے ہیں جو گدا کو وہم و گماں سے پہلے  
 اور ایک جگہ اپنے مالک و مولیٰ کی بات یوں کرتے ہیں۔

کہ آقا!

صائم تیرا ازلی بردہ  
 توں مالک تے والی میرا  
 توں رحمت دا نور خزانہ  
 تیرا منگتا مکل زمانہ

حضرات گرامی !

☆ انسان بھی آقا کے فقیر ہیں۔

☆ حیوان بھی آقا کے فقیر ہیں۔

☆ جنّات بھی آقا کے فقیر ہیں۔

☆ فرشتے بھی آقا کے فقیر ہیں۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

زُلفِ اوہدی وائلِ پیاری

اکھیاں وچہ مازاغِ دی دھاری

موہ لئی خلقت اُس نے ساری

اُس دے مہکتے نُوری ناری

اُس دے ہتھ وچہ گلّ مُختاری

جگ منگتا اُس دے دَرِ وا

تو پھر کیوں نہ کہوں !

رَبِّ تیرا توں رَبِّ وا ماہی

عرش فرش تے تیری شاعی

میں گولی توں صاحبِ میرا

بلکہ منگتا سب جگ تیرا

ناصر شاہ کہتے ہیں !

میں فقیر ہاں تیرے شہر وا میرا آسرا کوئی ہو نہیں  
 حضرات گرامی! ہم سب کو دربار مصطفیٰ سے ہی خیرات مل رہی ہے  
 اور ہم اُن کے دُر کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں ایک دو نہیں سارا عالم اُس نبی مختار  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھکاری ہے۔

داتا دا لنگر جاری اے

کُل عالم اوہدا بھکاری اے

کوئی دتے تے سہی اس دُرتوں

ناں جس نوں ملی خیرات ہووے

اس لئے کہ !

اوہدا دربار شہانہ این

تے منگتا کُل زمانہ این

اور اعلیٰ حضرت سرکارِ مدینہ کے درس سے سوال کرنے اور پھر اس سوال

کے جواب میں بھیک ملنے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں کہ۔

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیئے ہیں دُر بے بہا دیئے ہیں

اور ایک جگہ کہتے ہیں !

جب ہم بارگاہِ رسالت میں فقیر بن کر عرض گزار ہوں گے تو ہمارا

ط لوتکا ہوگا۔

مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے  
 سرکار میں نہ لآ ہے نہ حاجت اگر کی ہے  
 لب وا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں  
 کتنے مزے کی بھیک جرے پاک در کی ہے  
 اور مولانا حسن رضا بریلوی بھی اپنے شعور کی شاعری کے کمال سے  
 سرکار کا اپنے بھکاری سے تعلق اور محبت کا ہونا یوں بیان کرتے ہیں کہ۔  
 آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا  
 خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو  
 حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آقا کی خیرات کی بات کرتے  
 ہیں۔

ماں باپ بھی میرے تھے گدا تیرے ہی در کے  
 میں تیری ہی خیرات کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں  
 حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کمال انداز سے اسی بات  
 کو مزید نکھارتے ہوئے یوں رقم طرز ہوئے کہ !

ہیں عجیب آقا کی عادتیں ہیں عجیب ان کی سخاوتیں  
 بھریں پہلے جھولی فقیر کی پھر کہیں کہ مولا بھلا کرے  
 ہوں غریب صائم تو کیا ہوا مجھے ہے نختہ کا آسرا  
 میں ہوں اس سخی کا گدا بنا جو طلب سے بڑھ کے عطا کرے

اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی روانی سے  
بھرپور انداز سے سرکار مدینہ کی ثروت کا ذکر کیا !

غریبوں کی حاجت روا کرنے والے  
دو عالم کو رحمت عطا کرنے والے  
نعیم سیہ کار پر بھی کرم ہو  
فقیروں کو دولت عطا کرنے والے

حضرات گرامی! سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک  
ایسا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے سائل کو نہیں جھڑکا کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا  
فرمان ذیشان ہے۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

اے محبوب آپ سائل کو مت جھڑکیں۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !  
یا رسول اللہ میں مومن ہوں اور آپ مومنین کے لئے رُوف الرحیم

ہیں۔

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمِ

کہتے ہیں !

مومن ہوں مومنوں پہ روف الرحیم ہو  
سائل ہوں سائلوں کو خوشی لائے شہر کی ہے

حضرات گرامی !

جس جس کو بھی دیکھ لیں سرکار کے در کا گدا ہی نظر آتا ہے۔  
صحابہ کرام تو ایک طرف اُن کے منکوں میں انبیائے کرام بھی شامل

ہیں۔

- ☆ یوسف علیہ السلام کو حُسن ملا تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ موسیٰ علیہ السلام کلیم بنے تو اُن کے سوالی بن کر۔
- ☆ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ داؤد علیہ السلام کو نعمہ ترنم ملا تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ ایوب علیہ السلام کو دولتِ صبر ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ شاہوں کو شاہی ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ ولیوں کو کرامت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ اُمت کو فضیلت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ کعبے کو عزت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ صدیق کو صداقت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ فاروق کو عدالت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ صحابہ کو عظمت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔
- ☆ اُمت کو شفاعت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ چاند کو چاندنی ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ سُورج کو روشنی ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ آئمہ کو امامت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ ولیوں کو ولایت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ نبیوں کو نبوت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ رسولوں کو رسالت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ کج شریعت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ اہل تصوف کو طریقت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

☆ اہل بیت کو طہارت ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔

عزیزانِ گرامی !

☆ ہر انسان آقائے در کا سوالی ہے۔

☆ سلامت رہے در مرے مُصطفیٰ کا زمانے کو خیرات ملتی رہے گی

☆ تو اب اسی در بار رسالت میں جو مُصطفیٰ کا در بار ہے۔

☆ جو آقا کا در بار ہے۔

☆ جو مولیٰ کا در بار ہے۔

☆ جو داتا کا در بار ہے۔

☆ جو عطا کرنے والے کا آستانہ ہے۔

جو جھولیاں بھرنے والے سلطان کی بارگاہِ طہارت ہیں جہاں سے

سائل کو تمام نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اسی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لئے ملک پاکستان کے نامور ثناخوان رسول جن کی آواز کے ہم سب مشتاق ہیں اور ان کو سننے کے لئے بے چین ہیں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اعظم فریدی صاحب۔

☆ اعظم فریدی پاکپتن کی کوئل ہے۔

☆ اعظم فریدی سروں کا بادشاہ ہے۔

☆ اعظم فریدی سرکار کا گدا ہے۔

☆ اعظم فریدی ثناخوان رسول ہے۔

☆ اعظم فریدی نعت پڑھنی جانتا ہے۔

☆ اعظم فریدی ثناخوان پاکستان میں منفرد مقام کا حامل ہے۔

کیونکہ اس کی آنکھوں میں روشنی محبت رسول کی شمع ہے۔

☆ اس کے دل میں اللہ والوں کی محبت جمع ہے۔

☆ اس کے دل میں فیض اولیاء کی طمع ہے۔

☆ یہ ثناخوان حضور اکرم ہے۔

☆ سوز و گداز کا قاسم ہے۔

نام کے لحاظ سے محمد اعظم ہے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام

جناب محمد اعظم فریدی صاحب۔

ہے کعبے دا کعبہ محمد داروضہ

حضرات گرامی! ایک بڑا ہی خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جب شعر میری زبان سے نکل کر آپ کے کان اور کانوں کی سماعتوں میں داخل ہونے کے بعد وہ دل میں اترے تو سب حضرات بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے۔

اگر شعر پسند نہ آیا تو سبحان اللہ مت کیجئے گا اور اگر پسند آیا تو بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔

جج میں آپ کے دل کو بناؤں گا۔ اور اگر شعر بھی پسند آیا اور آپ نے سبحان اللہ بھی نہ کی تو جان لیجئے گا کہ یہ آپ کی خیانت ہوگی شعر سناتا ہوں پھر بلند آواز سے کہیے گا سبحان اللہ۔

ہے افضل تے اعلیٰ محمد دا روضہ

ہے عرشوں وی بالا محمد دا روضہ

بُھلکے رہندے سجدے چہ دل عاشقاں دے

ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ

حضرات گرامی! یہ میں نے جوش میں نہیں کہا واقعی حقیقت ہے کہ

ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ

کیونکہ کعبے کو قبلہ بنانے والے اس روضہ اطہر میں لیٹے ہیں۔

کعبے کو شان دینے والے یہاں ہیں۔

کعبے کو مقام دینے والے یہاں ہیں۔

کعبے کو درجات عطا فرمانے والے یہاں ہیں اس لئے کہتا ہوں۔

ہے کعبے دا کعبہ مُحَمَّد دا روضہ

اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پکار اُٹھے۔

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو

ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو

ہے کعبے دا کعبہ مُحَمَّد دا روضہ

سرکار کے بام و در کی یہ شان ہے کہ !

ہوتی ہے خود بخود جبیں سجدے کو بیقرار

کعبے کا رنگ ڈھنگ ترے بام و در میں ہے

تو جب بام و در کی یہ شان ہے تو روضہ اطہر کا مقام کیا ہوگا۔

لوگ کعبے نوں تے پیا کعبہ

کردا سجدے سدا مدینے نوں

ہے کعبے دا کعبہ مُحَمَّد دا روضہ

عزیزان گرامی ! کعبے کو سجدہ کرنے سے انسان مُشرک ہو جاتا ہے

کیونکہ کعبہ تو ایک سمت ہے اس لئے جب نمازی نماز پڑھتے ہیں تو نیت میں

یہ الفاظ دہراتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف۔

- ☆ شانِ کعبے کی بھی اعلیٰ ہے، شانِ طیبہ کی بھی اعلیٰ ہے۔
  - ☆ کعبہ مُسلما نوں کا قبلہ ہے، مدینہ مُسلما نوں کا کعبہ ہے۔
  - ☆ کعبہ بھی نُور والا ہے، مدینہ بھی نُور والا ہے۔
  - ☆ کعبہ بھی عظیم ہے، مدینہ بھی عظیم ہے۔
  - ☆ کعبے میں رحمت ہے، مدینہ میں رحمت اللعالمین ہے۔
  - ☆ کعبے میں رفعت ہے، تو مدینہ میں کعبے کو رفعت دینے والا۔
  - ☆ کعبے میں عظمت ہے، تو مدینہ میں کعبے کو عظمت دینے والا ہے۔
  - ☆ کعبے میں پاکیزگی ہے تو مدینہ میں کعبے کو پاک کرنے والا ہے۔
  - ☆ کعبہ اگر کعبہ ہے تو سرکارِ مدینہ کے صدقہ۔
  - ☆ کعبہ اگر قبلہ ہے تو سرکارِ مدینہ کا صدقہ۔
- ارے جن کے صدقہ سے کعبے کو عزت و عظمت ملی اُن سے کعبے کا تقابل نہیں ہو سکتا اس لئے کہتا ہوں۔

ہے کعبے دا کعبہ مُحَمَّد دا روضہ

- اگر کوئی یہ کہے کہ جی! حج کعبے میں ہوتا ہے تو میں بڑے ادب سے
- یہ گُذارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے حج کعبے میں ہوتا ہے۔
- ٹھیک ہے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔
- ٹھیک ہے کعبے کی زیارت ثواب ہے۔
- لیکن یہ تو سوچو، کہ کعبے میں حج ہوتا ہے لیکن حج کرنے کے بعد اگر

انسان مدینہ طیبہ نہ جائے تو اس کا حج قبول ہی نہیں ہوتا قبولیت کی مہر تو مدینہ میں لگتی ہے۔

اس لئے کہتا ہوں !

ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ  
حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں۔  
ساقول دی نگری توں کعبہ نثار اے  
کعبے دا کعبہ تے خود مینڈا یار اے  
اور حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !

آقا!

تیری چشم ہے چشمہ زم زم دا  
تیری زلف نوں سدہ جان لیا  
تیرے مکہ نوں سمجھ قرآن لیا  
تیرے در نوں کعبہ جان لیا  
اگر در کعبہ ہے تو در سے بھی آگے روضہ اطہر ہے اگر در کعبہ ہے تو در  
سے بھی بہتر روضہ ہے اسی لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے  
ہیں۔

ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ

پھر فرماتے ہیں !

جنتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں

اوتھاواں نے قبلہ نما اللہ اللہ

ہے عرشاں وا کعبہ تے کعبے وا قبلہ

حسین روضہ مصطفیٰ اللہ اللہ

ہے کعبے وا کعبہ محمد وا روضہ

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں تشریف فرما ہیں

حج کا مہینہ تو سرکار روضہ اطہر کی یاد آگئی منظر یہ تھا۔

پھر مدینے کی جانب چلے قافلے

پھر مری بے قراری کے دن آگئے

چشم بیتاب بتابیاں چھوڑ دے

خیر سے آہ و زاری کے دن آگئے

اور پھر بے قرار ہو کر کہتے ہیں۔

حاجی جو جانے لگے جانب دربار نبی

میرے ارمان تڑپتے ہیں مچل جاتے ہیں

مجھے حسرت ہی رہی سرکار کا روضہ دیکھوں

دیکھ کر کعبے کو پھر کعبے کا کعبہ دیکھوں

اس لئے۔

ہے کعبے وا کعبہ محمد وا روضہ

عزیزانِ گرامی قدر !

اب نعت رسول کے لئے دعوت دیتا ہوں عاشقِ مدینہ ہم سب کے  
محبوبِ ثناخوان واجب الاحترام جناب محمد اکرم قلندری صاحب آف لاہور۔

## حضورِ اقدس کا سایہ

حضراتِ گرامی ! سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف  
پڑھنا سننا لکھنا عاشقانِ رسول عبادت سمجھتے ہیں کیونکہ عبادت بھی اُس وقت  
تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دُرودِ پاک نہ  
پڑھا جائے چنانچہ تمام لوگ عبادت میں شامل ہو جائیں کیونکہ دُرودِ پاک  
پڑھنے کا حکم کسی مفتی نے نہیں دیا۔

☆ دُرودِ پاک پڑھنے کا حکم کسی واعظ نے نہیں دیا۔

☆ دُرودِ پاک پڑھنے کا حکم کسی مولوی نے نہیں دیا۔

☆ دُرودِ پاک پڑھنے کا حکم کسی پیر نے نہیں دیا۔

☆ دُرودِ پاک پڑھنے کا حکم کسی شیخ الحدیث نے نہیں دیا۔

☆ دُرودِ پاک پڑھنے کا حکم شیخ القرآن کا نہیں۔

دُرودِ پاک پڑھنے کا حکم کسی انسان نے نہیں دیا بلکہ خود ربِّ رحمان

نے دیا ہے۔

تمام لوگ با آواز بلند دُرودِ پاک بحضور امام الانبیاء بھیجیں۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

پڑھ لو سب درود محمد عربی تے

پڑھدا ربّ درود محمد عربی تے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

عزیزان گرامی! احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔

آپ کا سایہ نہ ہونا آپ کے خصائص میں سے ہے اس کائنات

میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس کا سایہ نہ ہو لیکن آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا سایہ دھوپ میں نہیں بنتا تھا آپ کے سایہ مبارک پر علمائے بڑے

لطیف نکات بیان فرمائے ہیں۔

جن میں ایک یہ ہے کہ جب خود سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ

کا سایہ ہیں تو سائے کا سایہ نہیں ہوتا اس لئے حضور کا سایہ نہیں ہے۔

عزیزان گرامی!

اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔

کہ ہمارے آقا اللہ کا سایا ہیں۔

ہمارے آقا خدا کا سایا ہیں۔

ہمارے آقا رب رب الارباب کا سایا ہیں۔

غور فرمائیں! جہاں انسان ہوتا ہے وہاں اُس کا سایہ ہوتا ہے۔  
 اگر میں ایک چوک میں دھوپ میں کھڑا ہوں تو لازماً میرا سایہ بھی  
 دھوپ میں اُس چوک میں ہوگا اور اُس چوک کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔  
 اگر میں چلوں تو میرا سایہ میرے ساتھ چلے گا لیکن وہیں رہے گا  
 جہاں میں موجود ہوں اور جب حضور اللہ کا سایہ ہیں تو جہاں جہاں۔

غور فرمائیں!

اللہ ہے وہاں وہاں سایا ہے۔

اب فہرست کون بنائے گا کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔

اُڑے میرے حضور کے حاضر ناظر ہوئے کہ منکر و جہاں جہاں اللہ

تبارک و تعالیٰ ہے وہاں وہاں اللہ کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

☆ جہاں اللہ وہاں حضور۔

☆ جہاں اللہ کی ربوبیت۔

☆ وہاں حضور کی ربوبیت۔

☆ جہاں اللہ کی خدائی۔

☆ وہاں حضور کی مصطفائی۔

☆ جہاں اللہ کا ذکر، وہاں وہاں حضور کا ذکر۔

☆ جہاں اللہ کی خلقت، وہاں حضور کی حکومت۔

☆ جہاں اللہ حاضر، وہاں حضور حاضر۔

☆ جہاں اللہ ناظر، وہاں حضور ناظر۔

☆

☆

☆ حضور اللہ کی عطا سے حاضر ناظر ہیں۔

☆ جہاں اللہ کی الوہیت وہاں حضور کی رحمت ہے۔

☆ جہاں اللہ ہے۔ وہاں حضور ہیں

☆ نہ حضور اللہ سے جدا ہیں۔

☆ نہ اللہ حضور سے جدا ہے۔

☆ نہ اللہ حضور سے الگ ہے۔

☆ نہ حضور اللہ سے الگ ہیں۔

☆ اللہ معبود ہے۔

☆ حضور عابد ہیں۔

☆ اللہ خالق ہے۔

☆ حضور مخلوق ہیں۔

☆ لیکن اُس نے اپنے محبوب کو خود سے جدا نہیں کیا۔

☆ حضرات گرامی نتیجہ دیتا ہوں۔

☆ جو شخص حضور کو اللہ کہے وہ کافر و مشرک ہے۔

☆ جو شخص حضور کو اللہ سے جدا سمجھے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔

میرا مُحَمَّدُ خُدا نہیں ہے خُدا سے لیکن جُدا نہیں ہے  
 جواب اُس کا کہاں سے لاؤں جواب اُس کا بنا نہیں ہے  
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جلّ شانہ سے اس لئے جدا  
 نہیں ہیں کہ آپ اللہ کا سایہ ہیں اور سایہ کبھی ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ یہاں  
 ایک رباعی ضرور پیش کروں گا امید ہے آپ ذوق سے سماعت فرمائیں گے

اسیں کر دے آں جرم پر بخششاں لئی  
 کر دے ہین دُعاواں حضور میرے  
 پہلا لکھیا صحیفہ جو رَبِّ صائم  
 اوہدا بنے سرناواں حضور میرے  
 جتھے پیر رکھدے کر دے جاوندے نے  
 جنت زار اوہ تھاواں حضور میرے  
 ساہ آپ دا ہندا تے کیوں ہندا  
 رَبِّ دا ہین پرچھاواں حضور میرے  
 حضور اللہ کا سایہ ہیں اس لئے آپ کا سایہ نہیں ہے۔

یہاں بھی علماء بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ گو حضور کا سایہ  
 نہیں ہے لیکن چونکہ رحمت بھی ایک لحاظ سے سایہ ہے اور آپ عالمین کے  
 لئے رحمت ہیں آپ کی رحمتوں کا سایہ تمام عالمین پر ہے۔

اسی بات کو جناب احمد ندیم قاسمی نے بڑے احسن انداز سے بیان

کیا۔

لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا

میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا

اور حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا انہوں نے

اس سے بھی لطیف انداز میں یہ لطیف بات اس طرح کی۔

نہیں تھا سایہ وجودِ حبیب کا لیکن

میرے حبیب کا دونوں جہاں پہ سایہ ہے

قاسمی صاحب فرما رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں شائبہ ہے

کیونکہ لوگوں میں کوئی سچ بولتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے اس میں شک کی گنجائش

ہے لیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک شاعر ادیب ہونے

کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن اور شارح حدیث بھی ہیں اس لئے انہوں نے

شائبہ کی بات نہیں کی بلکہ احادیث طیبہ کے مطابق جیسا کہ حضرت عثمان غنی کی

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک

اس لئے نہیں بنایا کہ آپ کے سایہ مبارک پر کسی کا پاؤں نہ آجائے۔

اس طرح اور بھی روایات سے ثابت ہے لہذا آپ نے بات کو چٹنگلی

کے ساتھ ادا کیا کہ۔

نہیں تھا سایہ وجودِ حبیب کا ! لیکن

میرے حبیب کا دونوں جہاں پہ سایہ ہے

عزیزان گرامی !

حضور کا سایہ نہ تھا مگر آپ کی رحمتوں کا سایہ تمام جہانوں پر ہے۔  
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک پنجابی شعر میں بیان  
کرتے ہیں کہ۔

جس دے نُور وُجودا سایہ دھرتی تے ناں پیندا سی  
او سے رَبِّ دے نُور نبی دا دو جگ اُتے سایہ اے  
حضرات گرامی ! سایہ رسول کے متعلق ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ چونکہ  
حضور علیہ السلام نض قطعاً سے نور ثابت ہیں۔

اللہ فرماتا ہے !

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ

حضور فرماتے ہیں !

نور نبیک من نورہ

حضور فرماتے ہیں !

اول ما خلق اللہ نوری

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا  
مادیت کا سایہ ہوتا ہے حضور چونکہ مادیت سے پہلے بنے لیکن بشری لبادے  
میں آنے کے باوجود آپ کی نورانیت کا خاصہ آپ کے جسدِ اطہر میں رکھا گیا  
ہے اس لئے آپ کا سایہ نہیں تھا۔

کوئی جگ میں اُن جیسا آیا نہیں ہے  
 کوئی رَبّ نے اُن سا بنایا نہیں ہے  
 مثل کہنے والو اُن کا سایہ تو ڈھونڈو  
 میرے کملی والے کا سایہ نہیں ہے

اور ایک شاعر کہتا ہے !

سایہ اللہ دا جہان وچہ نبی پاک نے  
 مرے نبی دا زمین اُتے سایہ کوئی نہیں

حضرات گرامی ! حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے باکمال

شاعر ہیں آپ نے بھی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک کے  
 متعلق نکتہ اخذ فرمایا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں آپ یکتا  
 ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یکتا ہونے پر دلیل کے لئے سایہ نہیں  
 بنایا۔

یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے  
 ایسے یکتا کے لئے ایسی ہی یکتائی ہو  
 اور خالد صاحب بھی سرکار کی شانِ لطافت کی بات کرتے ہیں۔

کہ آقا !

تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی  
 یہ شانِ لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی

اور ریاض بابر نے بھی کمال کر دیا۔ آپ کہتے ہیں۔

دو جہاں پر میرے آقا کا ہے سایہ بابر

لیکن دونوں جہانوں پر سایہ ہونے کے باوجود ایک چیلنج ہے !

دو جہاں پر میرے آقا کا ہے سایہ بابر

کون ہے جس نے بھلا آپ کا سایہ دیکھا

حضرات گرامی ! مضمون کافی طویل ہے لیکن میں یہیں پر اکتفاء

کرتے ہوئے اگلے شاخوآن کو دعوت دیتا ہوں۔

## معراج نامہ

حضرات گرامی !

جناب قدسی کا معروف شعر کس نے نہیں سنا مرحبا سید مکی مدنی

العربی اس شعر کی تفسیر جناب جلیل مینائی نے نہایت لاجواب کی آپ کی

نعت لکھتے ہیں اور ہر شعر کے اختتام پر بطور تفسیر جناب قدسی کا شعر حسن

کمال سے لاتے ہیں۔

حضرات گرامی !

معراج کی رات ہے۔

خوشیوں کی بات ہے۔

ہمارے لبوں پر ثنا تو صیف کی سوغات ہے۔

جلیل مینائی کہتے ہیں۔

اللہ اللہ عجب انوار ہیں معراج کی رات  
 نُور افشاں وِ و دیوار ہیں معراج کی رات  
 وصلِ محبوب کے آثار ہیں معراج کی رات  
 کھلنے کو پردۂ اسرار ہیں معراج کی رات  
 جلوے رحمت کے نمودار ہیں معراج کی رات  
 ملکِ اس طرح شہر بار ہیں معراج کی رات  
 مرحبا سیدِ مکیّ مدنی العزری

مرحبا آج قدم رنجہ وہ فرماتے ہیں  
 قدسیوں کا وہ عالم کہ بچھے جاتے ہیں  
 دل بیتاب کو قابو میں نہیں پاتے ہیں  
 آمدِ شاہ کے چہرے انہیں تڑپاتے ہیں  
 ایک سے ایک یہ کہتا ہے حضور آتے ہیں  
 مرحبا سیدِ مکیّ مدنی العزری

جبریل آتے ہیں لینے کو یہ رُتبہ دیکھو  
 عرش سے آگے ہے جانا یہ ارادہ دیکھو

سرِ اقدس پہ ہے کیا بانکا عمامہ دیکھو  
 حقِ نما آنکھوں میں مازاغ کا سُرمہ دیکھو  
 آو اس حُسنِ مجتَم کا تماشا دیکھو  
 پڑھ کے یہ مطلع پڑھو جب رُخ زیبا دیکھو  
 مرحبا سیدِ مکیّ مدنی العربی

اس سواری کی عجب شان ہے اے صلیٰ علی  
 دہنے بائیں نظر آتا ہے فرشتوں کا پرا  
 تاروں میں چاند سے روشن ہیں جناب والا  
 شمعِ ایوانِ دنیٰ، اخترِ مُرجِ طہ  
 شہ سوارِ مدنی صدرِ جانشینِ بطحا  
 اے بقربان تو صد جان و دل دیدہ ما  
 مَرْحَبًا سَیِّدِ مَکِّيِّ مَدَنِیِّ الْعَرَبِيِّ

دیکھو دیکھو طلبِ خاص کا منشا ہیں یہی  
 آنکھیں روشن کرو ماہِ شبِ اسریٰ ہیں یہی  
 محرمِ راز یہی سِرِّ فَاوِحِيّ ہیں یہی  
 حُسنِ افروز - جمالِ قَدِّيّ ہیں یہی

دردِ مندانِ محبت کا مسیحا ہیں یہی  
 اس ثنا کے لئے سچ پوچھو تو زیبا ہیں یہی  
 مَرَجبا سیدِ مکی مدنی العربی

یہی بیمار کو داروئے شفا دیتے ہیں  
 یہی بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دیتے ہیں  
 راہ بھولے ہوؤں کو راہ بتا دیتے ہیں  
 یہی اللہ سے بندوں کو ملا دیتے ہیں  
 گردِ پھر پھر کے یہ مشتاق صدا دیتے ہیں  
 مَرَجبا سیدِ مکی مدنی العربی

دیکھ کر مسجدِ اقصیٰ کو جو سرکارِ بڑے  
 پیشوائی کے لئے چرخ کے حصارِ بڑے  
 انبیاء تھے جو وہاں طالبِ دیدارِ بڑے  
 کیا نبی کیا ملک و خور سب اک بارِ بڑے  
 سب سے ملتے ہوئے احمدِ مختارِ بڑے  
 اس طرح کہتے زیارت کے طلب گارِ بڑے  
 مَرَجبا سیدِ مکی مدنی العربی

آسمانوں سے گُذر کر وہ امامِ جبریل  
 پہنچے سدِ رہ پہ جو تھا خاص مقامِ جبریل  
 بھر دیا بادۂ مقصود سے جامِ جبریل  
 آپ کے نام سے روشن ہوا نامِ جبریل  
 واں سے آگے جو بڑھے لے کے سلامِ جبریل  
 تھا یہی شاہ سے اُس وقت کلامِ جبریل  
 مرحبا سیدِ مکی مدنی العربی

آپ تھا ہوئے راہی سوئے عرشِ اعظم  
 عرش نے فخر کیا پُوم کے حضرت کے قدم  
 اس جگہ ہوتے تھے مفہوم یہ مضمونِ پیہم  
 آ قریب آ کہ بڑے دیر سے مُشاق ہیں ہم  
 تیرے لینے کو ہے کھولی ہوئی آغوشِ کرم  
 دیکھ کہتے ہیں تیری شان میں کیا لوح و قلم  
 مرحبا سیدِ مکی مدنی العربی

آ قریب آ کہ کریں موردِ رحمتِ مُجھکو  
 آ قریب آ کہ ملے قُرب کا خلعتِ مُجھکو

آج دکھلائیں گے ہم جلوۂ وحدت مُسجکُو  
 آج پہنائیں گے ہم تاج شفاعت مُسجکُو  
 دیکھو لائی ہے کہاں تیری محبت مُسجکُو  
 عرشِ اعظم بھی یہ دیتا ہے بشارت مُسجکُو  
 مرحبا سید کی مدنی العربی

حضرات گرامی !

یہ وہ جا ہے کہ رسائی سے گماں قاصر ہے  
 فہم عاجز ہے یہاں عقلِ بشر فاتر ہے  
 وہی منظور ہے اس وقت وہی ناظر ہے  
 وہی شاہد وہی مشہود عجب یہ سر ہے  
 کوئی اس رازِ نہانی کا کہاں ماہر ہے  
 خوب موقع پہ گھر زیرِ لبِ شاعر ہے  
 مرحبا سید کی مدنی العربی

اب یہ ہے عرض حضور شرہ والا القاب  
 ہے جلیل آپ کی فرقت میں نہایت بے تاب  
 ہند کی خاک میں مہجور کی مٹی ہے خراب  
 شربتِ وصل سے کر دیجئے اس کو سیراب

حشر میں خاص ہو اس پر نظرِ لطف جناب  
شعرِ قدسی کا وہ پڑھتا چلے ہمراہِ رکاب  
مرحبا سیدِ کئی مدنی العربی

## یادِ رسول

حضراتِ گرامی ! حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادِ پاک ہر  
عاشق کے سینے کی سجاوٹ ہے جو بھی سچا مسلمان ہے اُس کا سینہ یادِ رسول  
سے معمور ہے اور ہر گھڑی حضور کو یاد کرتے رہنا سچے مسلمان کا طریق ہے۔  
ہمارا عقیدہ ہے کہ رُوح تو جسم سے جُدا ہو سکتی ہے مگر یادِ رسول کبھی  
ہم سے جُدا نہیں ہو سکتی اس لئے شاعر نے کہا۔

قبر میں بھی مُصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے  
حضراتِ گرامی ! حضور کی یاد کا ہر ہر گھڑی اپنے دل و زبان پہ  
سجائے رکھنا ہمارا ایمان ہے۔

- ☆ ہم حضور کو خلوت میں بھی یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور کو جلوت میں بھی یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور سرِ محفل بھی یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور کو عالمِ تنہائی میں بھی یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور کو صبح بھی یاد کرتے ہیں۔

- ☆ ہم حضور کو شام بھی یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور کو تخیلہ میں یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور کو اجتماع میں یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور کو ہر گھڑی یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور کو ہر ساعت میں یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم حضور کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔
- ☆ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کاروبار بھی کیا جائے تو بھی حضور کی یاد کو دل سے جدا نہ کیا جائے۔

شاعر کہتا ہے !

نالے چرخہ کتاں نالے پونی کتاں  
میرا چرخہ گھوں گھوں کر دا اے  
دل میرا توں توں کر دا اے  
ہتھ کار وئے دل یار وئے

☆ ہم حضور کو اس لئے یاد کرتے ہیں کہ ان کی یاد ہمارا سہارا ہے۔  
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نعت شریف کا مطلع لکھتے ہیں

کہ !

جب سے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا  
دُنیا کے ہر عذاب سے دامن چھڑا لیا

اور پنجابی نعت کا مطلع اس انداز میں لکھتے ہیں کہ !  
 کملی والے میں صدقے تیری یاد توں  
 آکے جو بیقراراں دے کم آگئی  
 ایسی باغِ مدینہ چوں اٹھی مہک  
 کہیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آگئی  
 حضرات گرامی !

☆ حضور کی یاد ہمارا سہارا ہے۔

☆ حضور کی یاد ہمارا چین ہے۔

☆ حضور کی یاد ہمارا نور ہے۔

☆ حضور کی یاد ہمارا سرور ہے۔

☆ حضور کی یاد ہمارا سوز ہے۔

☆ حضور کی یاد ہمارا گداز ہے۔

☆ حضور کی یاد ہماری بہار ہے۔

☆ حضور کی یاد یادوں کی سردار ہے۔

یادِ رسول ہمارے مَن میں ہے

یادِ رسول ہمارے آنگن میں ہے

یادِ رسول ہماری جان و تن میں ہے

یادِ رسول ہمارے گلشن میں ہے

حضرات گرامی! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں!  
 مجھے خوف کیا ہے جہان کا وہ ہزار ظلم و جفا کرے  
 تیری یاد ہے مری زندگی جری یاد کو نہ جدا کرے  
 اس لئے کہ یاد رسول ہمیں نجات دیتی ہے دنیا کے عذاب سے اور  
 رب کے عتاب سے۔

☆ یاد رسول دنیا کی یاد ختم کرتی ہے۔  
 ☆ یاد رسول راہ ہدایت عطا کرتی ہے۔  
 ☆ یاد رسول قلب کو نور عطا کرتی ہے۔  
 ☆ یاد رسول من کو سرور عطا کرتی ہے۔  
 جسے مصطفیٰ کی یاد ہے اُسے باقی باتیں بھول جاتی ہے حضرت علامہ

صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لئے یہ شعر کہا کہ!  
 اک یاد سخن دی رہ گئی  
 سب باقی گلاں ٹھلیاں نے  
 جس دن دیاں اکھیاں لگ کھیاں  
 اُس دن دیاں اکھیاں کھلیاں نے

حضرات گرامی!

☆ حضور کی یاد ایمان کی علامت ہے۔

☆ حضور کی یاد رتب کی عنایت ہے۔

☆ حضور کی یاد اسلام کی شہادت ہے۔

☆ حضور کی یاد زبان کی تلاوت ہے۔

☆ حضور کی یاد باعث شفاعت ہے۔

☆ حضور کی یاد نبیوں کی سنت ہے۔

عزیزانِ گرامی قدر !

نیازی صاحب اس لئے فرماتے ہیں کہ !

یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا رہتا ہے

کیونکہ !

☆ یاد نبی سنیوں کا وظیفہ ہے۔

☆ یاد نبی رسول کے غلاموں کا طریقہ ہے۔

☆ یاد نبی عاشقانِ رسول کا سلیقہ ہے۔

☆ یاد نبی بریلویوں کا قرینہ ہے۔

حضراتِ گرامی حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک ہر

انسان کے دل و دماغ اور زبان پر جاری ہے۔

حضراتِ گرامی یادِ رسول کا اثر انسان کے پورے وجود پر ہوتا

—

☆ یادِ رسول دماغ میں سوچ بن کر رہتی ہے۔

☆ یادِ رسول آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی بن کر رہتی ہے۔

☆ یادِ رسول زبان پر ذکر بن کر رہتی ہے۔

☆ یادِ رسول دل میں غمِ رسول بن کر رہتی ہے۔

☆ یادِ رسول تن میں محبت بن کر رہتی ہے۔

☆ یادِ رسول من میں عشق کی علامت بن کر رہتی ہے۔

جب بھی یادِ مصطفیٰ کی بات دل سے زبان پر آئے تو اس کے ساتھ

آنکھیں بھی اشکوں کا سیلاب لے کر شامل ہو جاتی ہیں اور پھر یہ حالت ہوتی

ہے۔

آنسوؤں کی بن گئی لڑی

مصطفیٰ کی یاد آگئی

حضرات محترم !

☆ یادِ مصطفیٰ آنکھوں کو آنسوؤں کے حسین جواہر عطا کرتی ہے۔

☆ یادِ مصطفیٰ انسان کے باطن میں اجالا کرتی ہے۔

☆ یادِ مصطفیٰ خزاں کو بہار کرتی ہے۔

☆ یادِ مصطفیٰ غموں کا مداوا کرتی ہے۔

☆ یادِ مصطفیٰ انسان کا سنبھالا کرتی ہے۔

☆ یادِ مصطفیٰ گھروں کو سنوارتی ہے۔

یادِ محبوب سے گھر بار سنور جاتے ہیں

اشک آجائیں تو دل خود ہی نکھر جاتے ہیں

حضرات گرامی !

ہر عاشق رسول یہی کہتا ہے !

ہر خادم رسول زبان سے یہی الفاظ ادا کرتا ہے۔

کہ اے کملی والے۔

والتغوی کے چہرے والے۔

واللیل کی زلفوں والے آقا۔

ذکر سے تیرے من کی بزم سجاتے ہیں

یادوں کی خوشبو سے دل بہلاتے ہیں

اور ہمارا یہ عقیدہ ہے بلکہ ایمان ہے کہ اپنے آقا کی یاد مبارک پر ہر

چیز کو قربان کر سکتے ہیں مگر یادِ مصطفیٰ کو کبھی خود سے جدا نہیں کر سکتے۔

کیونکہ !

☆ یادِ مصطفیٰ عین ایمان ہے۔

☆ یادِ مصطفیٰ حکمِ قرآن ہے۔

☆ یادِ مصطفیٰ ہماری نگہبان ہے۔

☆ یادِ مصطفیٰ پر ہماری جان بھی قربان ہے۔

چند جان نوں وار دیاں سرکار دی یاد اتوں

دکھ درد زمانے دے اوہدی یاد نے ٹالے نے

حضرات گرامی ! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اُس شخص

کو مخاطب کرتے ہیں جو سرکارِ بظہا کی یاد میں شامل ہی نہیں ہوتا آپ اُس سے فرماتے ہیں کہ اپنے من میں یاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیپ جلا کر تو دیکھو۔

آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اطہر میں دو آنسو بہا کر دیکھو کہ تم پر کیسا کرم ہوتا ہے۔

اکھیاں دا دروازہ ڈھو کے دیکھ تے سہی  
پاک نبی دی یاد چہ روکے دیکھ تے سہی  
ٹھنڈ اکھیاں نوں پئی سینہ ٹھر جاناں  
اور پھر تم کہو گے کہ آقا۔

تیری یاد جب سے مجھے مل گئی ہے  
میری زندگی کی کلی کھل گئی ہے  
تیری یاد رنگ اب دکھلا رہی ہے  
تیری پاک صورت نظر آرہی ہے

حضرات گرامی! جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد کرتا ہے اُس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یاد فرماتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گھڑی آقا کو یاد کریں۔

ہم ہر ساعت آقا کو یاد کریں۔

ہم ہر ہر وقت حضور کو یاد کریں۔

اور اس عقیدے کے ساتھ کریں کہ حضور کی یاد ہی ہمارا سرمایہ ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !

یا رسول اللہ

یا حبیب کبریا

اے میرے آقا

اے میرے مولا

تیری یاد ہے من کا چین پیا

تیری یاد میں برسیں نین پیا

تیری یاد کے صدقے جان و جگر

تیری یاد مرا سرمایا

تیری یاد نے کام بنایا

عزیزان گرامی ! ہماری زندگی کا طریق یہی ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے

آقا کی یاد میں گذاریں۔

☆ اُن کی یاد خوشبوؤں کی مانند ہے۔

☆ اُن کی یاد طہارت کی مانند ہے۔

☆ اُن کی یاد کرامت کی مانند ہے۔

☆ اُن کی یاد اصالت کی مانند ہے۔

☆ اُن کی یاد رفعت عطا کرتی ہے۔

☆ اُن کی یادِ طلعت عطا کرتی ہے۔

☆ ہم جو محفلیں سجاتے ہیں۔

☆ ہم جو میلاد مناتے ہیں۔

ان محافل اور میلادِ پاک کا انعقاد صرف ایک ہی کام کے لئے کرتے

ہیں اور وہ کام یادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

محافلِ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان اپنے من کو

اُجالنے کے لئے محافلِ پاک میں تشریف لاتے ہیں اور آج کی یہ محفل بھی یاد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سجائی گئی ہے۔

حضرات گرامی! اسی یادِ رسول کی سچی سجائی محفلِ پاک میں تاجدارِ

مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول پیش کرنے کے لئے تشریف

لاتے ہیں جناب محمد علی چشتی صاحب۔

## نعت ہوتی ہے

حضرات گرامی! آج کی اس محفلِ پاک میں نعت گو شعرائے

کرام بھی موجود ہیں نعت شریف لکھنا قسمت والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے اور

وہی شاعر لکھتا ہے جس کو اس امر متبرک کے لئے چن لیا جاتا ہے یہ تمام باتیں

شعرائے کرام کی نذر کرتا ہوں اور یہ بھی التماس کرتا ہوں اگر بات ٹھیک نہ

ہو تو بتادیں اور اگر ٹھیک ہو تو آپ بھی سبحان اللہ کی صدا دینے والوں میں

شامل ہو جائیں۔

- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے قلب کی طہارت ہونی چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے ذہن پاک و صاف ہونا چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے خیالات اعلیٰ ہونے چاہیں۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے تحریر میں تقدس ہونا چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے الفاظ میں روانی ہونی چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے جذبہٴ عشق کامل ہونا چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے سوچ میں محبت ہونی چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے دل میں عقیدت ہونی چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے من میں اُجالا ہونا چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے ذہن میں قرار اور دل میں عشق کی بیقراری ہونی چاہیے۔

- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے قلم میں تقدس ہونا چاہیے۔
- ☆ نعتِ رسول لکھنے کے لئے عشق و محبت اور پیار و اُلفت کا ہونا ضروری ہے تب کہیں جا کر انسان نعت شریف لکھتا ہے۔

حضرات گرامی! نعت شریف لکھنے میں فن سے محبت اور جذبہٴ کامل کی ضرورت ہوتی ہے جب جذبہٴ کامل آجائے تو انسان فن کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے

حوالہ اٹھتے اپنے دور کے سب سے بڑے شاعر نہیں تھے علم العروض اور استعارات بے کراں کو شکل مستعمل دینے والے ماہر ترین شعرا موجود تھے جن کی زمینوں پر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا لیکن اعلیٰ حضرت اُن سب سے بلند مقام پر کیسے گئے اُن کے فن کو علم العروض کے ماہرین کو بھی تسلیم کیوں کرنا پڑا اس لئے کہ اُن میں جذبہ کمال تھا۔

میرا فن رہ گیا سر پیٹتا صائم سر زاہے  
 انہیں تو نعت میں بس جذبہ کمال پسند آیا  
 حضرات محترم! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے  
 ہیں۔

جنونِ نعتِ جواں ہو تو نعت ہوتی ہے  
 خدا کی حمد بیاں ہو تو نعت ہوتی ہے  
 گزاری شب ہو درودوں میں اور سلاموں میں  
 سحر کی یوں ہی ازاں ہو تو نعت ہوتی ہے  
 نعت لکھنے کا مزاج ہے کہ جب انسان اپنی عام زندگی میں بھی اپنی  
 یادوں کا محور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک کو بنالے۔  
 ہر ہر گھڑی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادِ بابرکت میں  
 بسر ہو جب بھی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو تو آنکھوں  
 سے اشکوں کی برسات جاری ہو جائے اور زبان پر حضور کے حُسن و جمال کی

- ☆ حضور کے خصائص کی بات ہو
- ☆ حضور کے فضائل کی بات ہو
- ☆ حضور کے شمائل کی بات ہو
- ☆ حضور کے کردار کی بات ہو
- ☆ حضور کی گفتار کی بات ہو
- ☆ حضور کے انوار کی بات ہو
- ☆ حضور کے مخلق کی بات ہو
- ☆ حضور کے پیار کی بات ہو
- ☆ حضور کے فضائل کی بات ہو
- ☆ حضور کے اخلاق کی بات ہو
- ☆ حضور کے تقدس کی بات ہو
- ☆ حضور کی رحمت کی بات ہو
- ☆ حضور کی شجاعت کی بات ہو
- ☆ حضور کی نبوت کی بات ہو
- ☆ حضور کی رسالت کی بات ہو
- ☆ حضور کے مقامِ محبوبیت کی بات ہو
- ☆ حضور کے منصبِ شفاعت کی بات ہو

☆ حضور کے مقامِ محمود کی بات ہو

☆ حضور کی جلوہ گری کی بات ہو

☆ حضور کے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہو کر اپنے غلاموں کے

تذکرہ اکمل کرنے کی بات ہو۔

☆ حضور کی سخا کی بات ہو

حضور کی عطا کی بات ہو اور پھر یہ معاملہ ہو کہ تیرا جلوہ نظر میں سما یا ہوا

ہے اور آپ کا ذکر مقدس زبان کا وظیفہ بن جائے تو نعت ہوتی ہے۔

نبی کی صورت و سیرت کا جانفزا قصہ

بنا جو وردِ زباں ہو تو نعت ہوتی ہے

جمالِ گنبدِ خضریٰ کے وقت اے صائم

طبع پہ نیند گراں ہو تو نعت ہوتی ہے

حضرات گرامی ! اب دعوتِ کلام تحت اللفظ دیتا ہوں ملک

پاکستان کے مایہ ناز نعت گو شاعر جن کا کلام ہر نعت خوان کی زبان پر رواں

ہے خوشبوئے حضرت علامہ صائم چشتی شاعر اہل سنت خوشبوئے صائم گدائے

صائم شاگردِ صائم جناب محمد یسین اجمل چشتی کہ جن کو حضرت علامہ صائم

چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رنگ میں رنگا ہوا ہے جب یہ کلام پیش کرتے

ہیں تو سامعین بے خود ہو جاتے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب محمد یسین اجمل

صاحب۔

حضرات گرامی! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں  
 مدینہ یا د جو آیا تو آنکہ بھر آئی  
 نمی سی آنکہ میں آئی تو نعت ہوتی گئی  
 شعر سماع فرمائیے!

جگر کے سوز سے آہوں کے جب تسلسل میں  
 کمی نہ آنے تھی پائی تو نعت ہوتی گئی  
 حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں

کہ!

تھی رات رو کے گذاری مگر صبح کو بھی  
 صبا پیام نہ لائی تو نعت ہوتی گئی  
 حضرات گرامی! اس لئے کہ نعت دو کیفیتوں میں ہوتی ہے۔

نمبر ۱:- ہجر کا حال ہو۔

نمبر ۲:- یا وصال ہو۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب مقام ہجر میں نعت لکھتے  
 ہیں تو اس میں آہیں ہوتی ہیں اس میں سوز و گداز کا وہ انداز ہوتا ہے کہ جس  
 میں محبت اپنے محبوب کے فراق میں تڑپتا ہے اور پھر جب محبوب کی قربت  
 حاصل ہو تو اس وقت نعت شریف کا انداز مختلف ہوتا ہے۔

بہر حال دو اشعار پیش کر کے اگلے شاعر کو پیش کرتا ہوں۔

مرے خیال نے جا کر جو اِرِ طیبہ میں  
 مری جو بات بھائی تو نعت ہوتی گئی  
 تھی نُنک آس کی کھیتی پڑی ہوئی صائم  
 گھٹا کرم کی جو چھائی تو نعت ہوتی گئی  
 تشریف لاتے ہیں شاعر اہلسنت محترم جناب محمد جمیل چشتی

صاحب۔

حضرات گرامی! جمیل چشتی ایک پختہ قلم کار ہیں بالخصوص پنجابی  
 لکھنے میں بے مثال ہیں ان کا کلام سارے پاکستان کے ثنا خوان اور قوال  
 حضرات نے قوالی کے انداز میں پڑھا ہے اُستاد نصرت فتح علی خاں صاحب  
 نے اُن کے لکھے ہوئے کافی کلام پیش کئے اور داد تحسین حاصل کی تو اب میں  
 بلا تاخیر دعوت کلام دیتا ہوں فیصل آباد کی پوچان محفل کی جان اور ہمارے لئے  
 سوز کا سامان جناب محمد جمیل چشتی صاحب آپ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ  
 اللہ علیہ کے اُن شاگردوں میں شامل ہیں جن کا بہت زیادہ عرصہ حضرت  
 علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گذرا ہے جناب محمد جمیل چشتی  
 صاحب۔

عزیزان گرامی قدر! نعت کے موضوعات ہزاروں کی تعداد میں

ہیں۔

نعت کے موضوعات کا تعین ہی نہیں کیا جاسکتا حضور کی جس ادا کی

بات کریں وہ نعت ہی ہوتی ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

آپ کی جس بھی ادا کی بات کی  
نعت کا عنوان صائم بن گیا

اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں !

جس کی نعت پاک سب قرآن ہے

نعت گو صائم ہے اُس سرکار کا

اور نعت کی روشنی کی بات کرتے ہیں کہ !

میرے سینے میں ہے روشنی نعت کی  
دل کو ہلتی رہی تازگی نعت کی  
پاک قرآن کا ہر ورق نعت ہے  
بات ہر سطر میں ہے بھی نعت کی  
شعر میرے جو ہیں پُر پُر اثر  
ساری برکت ہے یہ خم کی نعت کی  
سُر خمیدہ تھی ہر ایک صنفِ سخن  
بات حلقہ میں تھی جب چلی نعت کی  
جب عطا نعت ہے اُن کے دُر سے ہوئی  
ساتھ لذت بھی مجھ کو ملی نعت کی

نعت ہی کے لئے زندگی وقف ہے  
 اور مرہون ہے زندگی نعت کی  
 نقشِ دل پہ مدینہ تھا صائمِ ہوا  
 سطر جب بھی ہے کوئی لکھی نعت کی  
 حضراتِ گرامی! اب نعت گو شاعر شاگردِ حضرت علامہ صائمِ چشتی

رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد مقصود مدنی صاحب کو دعوتِ کلام دیتا ہوں۔

جناب محمد مقصود مدنی کو فنا فی العلّامہ صائمِ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہا  
 جائے تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ محمد مقصود مدنی علامہ صائمِ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے  
 وہ ہونہار شاگرد ہیں جنہوں نے آپ کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے تحقیق کا  
 کام بھی کیا اور خوب کیا ہے ان کی بے شمار تصانیفِ علماء و قارئین سے دادِ تحسین  
 سے حاصل کر چکی ہیں۔

محمد مقصود مدنی شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم  
 بھی ہیں، محقق بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور محبوب  
 اہلسنت اور محبتِ اہلبیت ہیں تشریف لاتے ہیں شاعرِ اسلام مبلغِ اسلام فاتح  
 خارجیت جناب محمد مقصود مدنی صاحب۔

حضراتِ گرامی! محمد مقصود مدنی لکھتے ہیں۔

تاروں کی ضیا پائی محبوب کی محفل میں  
 ہر غم کی دوا پائی محبوب کی محفل میں

مُجھک مُجھک کے فرشتے بھی خود دیکھنے آتے ہیں  
یہ حُسن یہ رعنائی محبوب کی محفل میں  
تو اس بھی سجائی محفل میں ملک پاکستان کے معروف شاعر جناب سید  
ناصر شاہ صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں۔

حضرات گرامی! سید ناصر شاہ صاحب کے لکھے ہوئے لا تعداد کلام  
سارے پاکستان میں معروف ہیں اور ہر محفل میں آپ کی لکھی ہوئی نعتیں  
پڑھی جاتی ہیں آپ بے مثال خطیب اور بے نظیر شاعر ہیں آپ کے انداز  
میں مزاج بھی ہے اور حُسن عقیدت کی چاشنی بھی ہے۔

عزیزان گرامی! سید ناصر شاہ بھی حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ  
اللہ علیہ کے ابتدائی شاگردان میں شامل ہیں اور آپ نے بھی اکتساب فیض  
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے تو تشریف لاتے ہیں  
پاکستان کے صفِ اول کے نعت گو شاعر جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب  
چشتی دامت برکاتہم العالیہ۔

حضرات گرامی!

اب کلام شاعر بزبان شاعر کیلئے ایک نہایت ہی منجھے ہوئے شاعر کو  
دعوت دیتا ہوں کہ جن کا کلام ہی جن کی عظمت کا گواہ ہے آپ پیرِ کامل بھی  
ہیں اور سیدِ عالی وقار بھی ہیں جو بھی آپ کے دامنِ کرم میں آیا محبتِ رسول و  
آل رسول بن گیا بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت پیر سید ابونصر محمد رباض

شاہ صاحب مدظلہ العالی۔

## نعتِ بدعت نہیں

حضرات گرامی! آج لوگ کہتے ہیں کہ نعت شریفِ بدعت ہے یہ سنتوں نے کام بدعت شروع کی ہے۔

عزیزانِ گرامی قدر! نعت شریفِ بدعت نہیں ہے بلکہ نعت شریفِ نعت کو بدعت کہنے والے خود بدعتی ہیں۔

انہوں نے اپنی سینکڑوں بدعاتِ ایجاد کی ہیں انہیں صرف نعت شریف سے عداوت ہے اور یہ عداوت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نعت شریف بدعت ہے۔

عزیزانِ گرامی! نعت شریف چودہ سو سال پہلے سے لکھی جا رہی ہے ابھی حضور علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا کہ جب آپ کی نعت لکھی گئی۔

حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نعت لکھی اور جب تک نعت شریف لوگ لکھتے ہیں گے اُس کا ثواب بھی جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا اُن کے بعد بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعتیں لکھیں۔

حضرت ابوطالب نے بعثت کے بعد نعت شریف لکھی تو اس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور یہ نعت بھی آپ کے ایمان کی

دلیل ہے۔

آپ فرماتے ہیں !

عروضت دینا لامحالة الله  
من خيرا ديان البرية دينا  
اور تو نے وہ دین پیش کیا جو یقیناً دُنیا کے

ادیان میں بہترین دین ہے۔

اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نعتیہ اشعار لکھے جن میں سے

ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

واحمد مصطفیٰ فیتا مطاعاً  
فلا تفسوه بالقول العنيف  
اور احمد ہم میں برگزیدہ ہیں جن کی اطاعت کی  
جاتی ہے لہذا تم ان کے سامنے ناملائم لفظ بھی منہ سے  
نہ نکالنا۔

عم رسول حضرت عباس رضی اللہ عنہ نعتیہ قصیدہ لکھتے ہیں جس کا ایک

شعریہ بھی ہے۔

وانست لما ولدت اشرف  
الارض و ضنات بنورک الافق  
اور جب آپ پیدا ہوئے تو زمین چمک اٹھی اور آفاق

آسمان آپ کے نور سے روشن ہو گئے۔

حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں فرماتی ہیں جس میں مرثیہ اور ہجریہ اشعار ہیں۔

### اندازِ قطعاتِ نقابت

حضرات گرامی! بات سرکارِ دو عالم کے ذکر کی ہو۔

☆ بات سرکارِ دو عالم کے حُسن کی ہو۔

☆ بات سرکارِ دو عالم کے کردار کی ہو۔

☆ بات سرکارِ دو عالم کے افعال کی ہو۔

☆ بات سرکارِ دو عالم کے انوار کی ہو۔

☆ بات سرکارِ دو عالم کے دربار کی ہو۔

اور بات سرکار کی ہو تو بات کرنے والے کی بات بن جاتی ہے ہی

بن جاتی ہے۔

اُن کے دربار پہ جاؤ تو مٹادو خود کو

اُن کے دربار پہ تو موت بھی مر جاتی ہے

جس طرح پھل میں خوشبو ہے اُترتی صائم

بات سرکار کی یوں دل میں اُتر جاتی ہے

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہیں حضور صلی اللہ علیہ  
 وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں۔

أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

عزیزان گرامی! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے  
 پہلے بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا سب سے اول ہیں۔

اللہ خالق ہونے میں اول ہے اور حضور بننے میں اول ہیں۔

اللہ حقیقت میں اول ہے حضور خلقت میں اول ہیں۔

اللہ معبود والہ ہونے میں اول ہیں حضور عبد و عابد ہونے میں اول

ہیں۔

عزیزان گرامی! سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود شمس

و قمر سے پہلے کا ہے، شجر و حجر سے پہلے کا ہے، بحر و بر سے پہلے ہے، بلکہ لوح و

قلم سے بھی پہلے کا ہے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو تخلیق فرمایا تو

فرمایا! اے قلم جو کچھ ہو گیا ہے وہ لکھو اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھو قلم

نے سب سے پہلے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ لکھا اور بعد میں ہونے والی

باتیں لکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور تو لوح و قلم سے بھی پہلے کے ہیں۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا!

ظہور اُن کا ہوا لوح و قلم سے پہلے

وجود اُن کا تھا موجود عدم سے پہلے

نہ کہیں چاند ستارے تھے نہ سُورج صائم  
 حق کے محبوب نبی نورِ قدم سے پہلے  
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ البدایہ  
 والنہایہ ہیں۔

آپ اول ہیں تو آخر بھی ہیں آپ نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ کا راز  
 بھی ہیں حضرت علامہ صائم چشتی بیان کرتے ہیں۔

چاند کا آنا زمیں پر لوٹنا خورشید کا  
 ایک ادنیٰ سا میرے محبوب کا اعجاز ہے  
 جو کھلا نہ کھل سکے گا خلق پر محشر تک  
 رتبہ دو عالم کا میرا مُصطفیٰ وہ راز ہے  
 ختم اُن پر سلسلہ صائم نبوت کا ہوا  
 اُن سے ہی حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے  
 كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ

حضور فرماتے ہیں !

میں اُس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے  
 درمیان تھے اور پھر فرمایا۔

أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ

میں ہی نبوت کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

ختم اُن پر سلسلہ صائم نبوت کا ہوا  
 اُن سے ہی حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے  
 خلق اول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ  
 سلام کے لئے تشریف لاتے ہیں بڑے ہی مترنم انداز میں پڑھنے والے  
 جناب محمد حسنین چشتی صاحب۔

حضرات گرامی! بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں تو نور کیسے اگر  
 نور ہیں تو بشر کیسے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔

اُرے اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت دل میں  
 بسا لو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔

دیکھیں فرشتہ بشر ہے یا نور؟ نور ہے نہ؟ لیکن بعض اوقات لباس  
 بشریت میں آتا ہے جب حضرت جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس تو  
 ایک تندرست مُرد کی صورت میں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل جب رُوح  
 قبض کرنے آئے تو ایک نوجوان کی صورت میں۔

جبریل علیہ السلام جب بشر بن کر آئے تو ان کی نورانیت میں کسی قسم  
 کا فرق نہیں آیا۔

اور جبریل کا ظاہری لباس بشریت والا تھا حقیقت نور تھی بالکل اسی  
 طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری لباس میں تشریف لائے ہیں آپ کی

حقیقت نور ہے حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تخلیق فرمایا اور پھر اسی نور سے تمام عالمین کو تخلیق فرمایا۔

☆ عالمین میں مصطفیٰ کا نور ہے۔

☆ زمینوں میں مصطفیٰ کا نور ہے۔

☆ دریاؤں میں مصطفیٰ کا نور ہے۔

☆ آسمانوں پہ مصطفیٰ کا نور ہے۔

☆ جنت میں مصطفیٰ کا نور ہے۔

☆ فرشتوں میں مصطفیٰ کا نور ہے۔

☆ انبیاء میں مصطفیٰ کا نور ہے۔

☆ مرسلین میں مصطفیٰ کا نور ہے۔

☆ حضور سرچشمہ نورانیت ہیں۔

شاہکار خداوند کریم نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو خلق کیا اور اس

نور سے دیگر مخلوق کو خلق کیا۔

☆ اسی نور کی بدولت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے۔

☆ اسی نور کی بدولت چالیس صحائف حضرت شیث پر نازل ہوئے

☆ اسی نور کی بدولت نارنمرود ابراہیم پر گلزار بنی۔

☆ اسی نور کی بدولت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچے۔

☆ اسی نُور کی بدولت کشتی نوح کو کنارہ ملا۔

☆ اسی نُور کی بدولت جہاں میں روشنی ہوئی۔

☆ اسی نُور کی بدولت زمانہ حسین ہوا۔

☆ اسی نُور کی بدولت کائنات نورِ علی نور ہو گئی۔

کیونکہ یہ نور ساری کائنات میں جلوہ گر ہے۔

☆ یہ نور عالمین میں جلوہ گر ہے۔

☆ یہ نور جہانوں کو محیط کیسے ہوئے ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں !

ذرے ذرے میں درخشاں مُصطفیٰ کا نُور ہے

چاند میں خورشید میں شمس النُّجیٰ کا نُور ہے

جلمگاتا ہے جو صائم مُصطفیٰ کا آل میں

مُصطفیٰ کا فاطمہ کا مُرتضیٰ کا نُور ہے

تو اب نُور وحدت کے حضور نُور حاصل کرنے کے لئے ہدیہ عقیدت

پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام صاحبزادہ پیر سید

تجمل حسین شاہ صاحب گیلانی جن کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے خاص ہی

کیفیات رکھیں ہیں جب سید تجمل حسین اپنی مترنم آواز میں کلام پیش کرتے

ہیں تو سننے والے اپنے آپ کو مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں محسوس کرتے ہیں

تشریف لاتے ہیں سید تجمل حسین شاہ صاحب

## صدائے عاشق

حضرات گرامی! ہم نے آج یہ محفل اسی لئے سجائی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولیٰ سے فریاد کریں کہ حضور ہماری صدائیں سن لیں ہم پر کرم فرمائیں اور آج اپنا جلوہ دکھائیں۔

آج یہ منگتے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔  
 آج یہ اپنی گذارشیں لے کر اپنی التجائیں آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں انہیں مایوس نہ فرمانا آقا آج اپنی اس محفل میں تشریف لے آئیں۔

آقا آپ کی امت اس وقت بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے۔  
 آپ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل رہی ہے۔  
 آقا ان خالی دلوں کو اپنی محبت سے بھر پور فرمادیں۔  
 حضور غیر کی محبت نکال کر صرف اپنی محبت کا جام عطا فرمادیں۔  
 حضور یہ منگتے بڑی آس لائے ہیں آقا آپ تو سب کے آقا ہیں  
 آپ سب کے مولا ہیں حضور آپ تو ہمارے ذاتا ہیں آقا آپ تشریف لائیں  
 میری سو جانیں بھی آپ پر قربان ہوں آپ کے جلوؤں کی تڑپ میں آپ  
 کے عاشقان زار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نظر کی ضرورت ہے اور میری یہی  
 التجا ہے کہ۔

چشمہ فیض و کرم جانِ تمنا آجا

اے مری جان کے مالک مرے آقا آجا

جب سے سرکار نے صائم پہ نظر ڈالی ہے

بس یہی دل کی صدائیں ہیں کہ آجا آجا

حضرات گرامی! ہم سب چاہتے ہیں کہ اب جناب شیخ عبدالسلام

نقشبندی تشریف لے آئیں اور محبوب کائنات کے حضور اپنی معروضات پیش

کریں جناب شیخ عبدالسلام نقشبندی آپ تمام حضرات بلند آواز سے درود

پاک کے ہدیے پیش کیجئے۔

## شانِ مصطفیٰ

حضرات گرامی! شانِ رسالت کی محفل میں آج آقا شان کے

ساتھ آئیں گے کہ آپ دو عالم کے غم خوار ہیں آپ اُمتیوں کے فریادرس ہیں

آپ ہماری مناجات قبول فرمانے والے ہیں ہمارے دل کی صدائیں یہی

ہیں کہ سرکار ہم پر نظر کرم فرما کر اس محفل میں تشریف لے آئیے کہ آپ

قطرے کو دریا کرنے والے ہیں ہماری سُکھی ہوئی کھیتیوں کو سیراب فرمادیں

آپ ذرے کو ستارہ بنانے والے ہیں اندھیرے مَن میں اُجالے کی شمع روشن

فرمادیں۔

اُن کی شان یہ ہے کہ !

ڈرے کو اُس نے نُور کا تارا بنا دیا  
 میثرب کو جس نے طیبہ و طابہ بنا دیا

روتا جو دیکھا ہجرِ مدینہ میں آپ نے  
 خُود آکے دل میں دل کو مدینہ بنا دیا

خالق کے ہاں بھی مثل پھر جس کی نہ بن سکی  
 خالق نے خُود حبیب کو ایسا بنا دیا

اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے توجہ چاہتا ہوں۔

نُشْرَح کی شُرْح نُور زُجَاجَہ میں گوندھ کر  
 حَقّ نے مرے حبیب کا سینہ بنا دیا  
 حَقّ نے رسولِ پاک کو حَسَّان کے بقول  
 جیسا بھی بننا چاہا تھا ویسا بنا دیا  
 اَرْض و سَا پہاڑ سمندر حجرِ شجر  
 خالق نے یار کے لئے کیا کیا بنا دیا  
 صُورَت یہ جو حضور کی بنتی تھیں صُورَتیں  
 صائم انہیں بھی آدم و عیسیٰ بنا دیا

رحمت :-

حضرات گرامی! اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ اللعالمین بنایا آپ کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے۔

جس پر حضور کی خاص رحمت ہو اُسے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے ایمان ایک ایسا خزانہ ہے جس کی قدر قبر و حشر میں ظاہر ہوگی۔

عزیزانِ گرامی!

حضور کی رحمت انبیاء کو بھی حاصل ہوئی کہ انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔

☆ حضور کی رحمت صالحین کو ملی۔

☆ حضور کی رحمت سالکین کو ملی۔

☆ حضور کی رحمت عالمین کو ملی۔

☆ حضور کی رحمت خاص کو بھی ملی عام کو بھی۔

☆ حضور کی رحمت سردار کو بھی ملی غلام کو بھی۔

☆ حضور کی رحمت قرآن کو بھی ملی اسلام کو بھی۔

☆ حضور کی رحمت صُبح کو بھی ملی شام کو بھی۔

حضرات گرامی! کوئی ایسا نہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی رحمت مبارکہ نہ ملی ہو حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو

بڑے احسن انداز سے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ۔

کس کے حصّے رحمتِ شاہِ زمن آئی نہیں

کس نے اُن کی زندگی سے زندگی پائی نہیں

کس قدر صائم کرم ٹھہرے ہوا سرکار کا

کون سی محفل تیرے شعروں نے گرمائی نہیں

اب محفل عالیہ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لئے دعوت

دیتا ہوں سرگودھا کے عظیم نعت خوان نہایت خوبصورت آواز کے حامل ثنا

خوان رسول جناب سائیں محمد رفیق چشتی قلندری صاحب۔

## ضیائے رُخ رسول

حضرات گرامی !

وہ حسین چہرہ کہ جس جیسا حسین چہرہ اور کوئی نہ ہو انہ ہوگا وہ چہرہ جو

تمام عیوب ظاہری و باطنی سے مبرا و منزہ ہے وہ حسین چہرہ کہ جب اُسے خالق

سے خلق کا روپ دیا اور اُسے دیکھا تو خود ہی اُس کا محبت بن گیا اور ”فاجبت“

کے تحت اُس سے محبت فرمائے گا۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب شعر لکھا !

ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی

خود خدا کو بنا کر غرور آگیا

ایک صاحب کہنے لگے غرور لفظ صحیح نہیں ہے یہاں صرف سرور بہتر ہے میں نے کہا! اللہ تعالیٰ المتکبر ہونے کے ناطے اکیلا ہی تکبر والا ہے وہی کبریائی والا ہے تمام تکبر اسی کی شان کے لئے ہیں اس لئے اس لئے تمام فخر اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تمام غرور اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تمام کبریائی اسی کے لئے ہے اللہ فرماتا ہے۔

الکبریاء ردائی  
تکبر میری چادر ہے۔

﴿مشکوٰۃ شریف﴾

جب اللہ خلق کے لئے غرور فرماتا ہے اور اُس کی شان کے لائق ہے تو حضور تو اُس کی سب سے بے مثل تخلیق ہیں لہذا حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ شعر قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہاں اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں کہ وہ تکبر کرے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے جو تکبر کو استعمال کرے میں اُسے آگ میں ڈالوں گا اللہ کے لئے بڑائی فخر و غرور تکبر تمام ہیں اور حضور وہ ہیں جن کے چہرے کو بنا کر اللہ کبریائی فرماتا ہے۔

عزیزانِ گراما !

حضور کے چہرہ اطہر کو اللہ نے بنایا اور آپ کے ہی چہرہ انور سے سب نے روشنی حاصل کی پھر کیوں نہ کہوں۔

سُورج ہوں ستارے ہوں مہتاب ہوں قُدسی ہوں  
 محبوب کے رُخ سے ہی سب نے ہے ضیا پائی  
 قرآن کی سُورت کی صورت میں گئی ڈھلتی  
 جو بات بھی ہے صائم سرکار نے فرمائی  
 تو اب انہیں احادیث کا ترجمہ کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں  
 ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب سُروں کے بادشاہ ثانی سید شبیر حسین شاہ  
 صاحب جناب قاری محمد افضال نقشبندی مجددی صاحب۔

## مدینہ میں آنسو

حضرات گرامی! جو اشکِ ندامتِ مدینہ میں بہے وہ موتیوں سے  
 بھی قیمتی ہے علمائے کرام اور مفتیانِ شریعت کا فتویٰ ہے کہ مدینہ طیبہ میں گناہِ  
 صغیرہ کیا جائے تو وہ گناہِ کبیرہ کی مانند ہے اور گناہِ کبیرہ انسان کو جہنمی کرنے  
 کے لئے کافی ہے تو پھر اگر اُس سرزمینِ مقدس اور حرمِ شریف کی مثل سرزمین  
 اطہر میں انسان جا کر اپنے جُرموں پر نادم ہو کر آنسو بہائے تو اس آنسو کی قدر و  
 قیمت کا اندازہ ممکن ہی نہیں ہے۔

عزیزانِ گرامی! جب بھی عاشقانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو اپنے گناہ ختم کرا لیتے ہیں۔  
 ☆ مدینہ گناہوں کے ختم ہونے کا شہر ہے۔

☆ مدینہ جراثم کو دھونے کا شہر ہے۔

☆ مدینہ درجات عالیہ کے حاصل ہونے کا شہر ہے۔

☆ نور کا جلوہ دلوں میں سمونے کا شہر ہے۔

☆ مدینہ آنسوؤں کے ہار پر ہونے کا شہر ہے۔

اس لئے کہ آنسو اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں بسے ہوں اللہ کے نزدیک

بے حد اچھے ہیں۔

حضرات گرامی! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا

شعر لکھا ہے۔

جبھی تو آ کے مدینے میں روئے جاتے ہیں

گنہ کے داغ مدینے میں دھوئے جاتے ہیں

انہیں تلاش نہ کرنا وہ خوش مُقَدَّر ہیں

جو اُن کے شہر مقدس میں کھوئے جاتے ہیں

اب شہر خوباں اور شاہ خوباں کے خُسن و جمال کی بات کرنے اُن کی

بارگاہ میں عقیدت کے پھولوں کے ہار پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے

ہیں محترم المقام جناب حافظ محمد اکرام مہروی چشتی قلندری سیفی صاحب۔

گدا یانِ رسول

حضرات گرامی! تمام مخلوق آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

گدا ہے سب آپ کے معنئے ہیں غریب بھی معنئے ہیں امیر بھی معنئے ہیں بلکہ شاہانِ زمانہ بھی سلطان العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درِ منور کے گدایان میں شامل ہیں کہ ہر ایک کو وہاں سے ملتا ہے شاعر کہتا ہے۔

ہے کون جسے نکلڑا نہ اُس در سے ملا ہو

اس لئے کہ یہ واحد درِ بارِ اقدس ہے یہ واحد آستانہ ہے جہاں جانے والا سائل کبھی خالی نہیں آتا۔

یہ اُس ہستی کا درِ بار ہے جو مالک و مختارِ کل کائنات ہے۔

یہ وہ درِ بار گہر بار ہے جہاں ہر کسی کی سُنی جاتی ہے۔

اور ہر کسی کی دادِ رسی کی جاتی ہے اور ہر کسی کو نوازا جاتا ہے اسی لئے

تمام مخلوق سرکار کے در کی گدا ہے کیونکہ یہ درِ درِ حقیقت درِ رب العالی ہے پھر کیوں نہ کہوں !

مخلوق خدا جتنی بھی ہے اُن کی گدا ہے

اللہ کے سوا آپ سے برتر نہیں کوئی

صائم کو بھی طیبہ میں بلالیں مرے آقا

آجاتا مگر پاس مرے زر نہیں کوئی

حضرات گرامی ! لوگ دیارِ مصر کی بات کرتے ہیں۔

لوگ دیارِ ایران کی بات کرتے ہیں۔

لوگ دیارِ رونق آفریں کی بات کرتے ہیں ارے بات کرنی ہے تو

اس دیار کی بات کو جہاں سے تمام دیاروں کو رونق عطا ہوتی ہے اب محبوب و دیار محبوب کی بات کرنے تشریف لاتے ہیں جناب پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب آف انگلینڈ۔

## مختارِ کل

حضرات گرامی! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلی مختار بنایا اور تمام اختیارات آپ کے سپرد فرمادیئے ہیں حضور کے چاہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے آپ نے سورج کو ضیاء دی چاند کو چاندنی دی طائران بہشت کو نغمگی دی اندر اصحاب کو سادگی دی ناپاک کو پاکیزگی دی مریضوں کو صحت دی سلاطین کو سلطنت دی اور اسلام کو سطوت و شوکت دی مدینہ کو بزرگی دی۔

کہ آپ مختارِ کل ہیں۔

حضرات گرامی! حضور نے آسمان کو زینت دی زمین کو عظمت دی مسلمانوں کو سیرت دی بے شرور کو شرور دیا بے نور کو نور دیا بے چارے کو چارہ دیا بے سہارے کو سہارا دیا غموں کے مارے کو قرار دیا دکھ کے مارے کو پیار دیا لوح کو رحمت دی قلم کو رحمت دی عرش کو رحمت دی کرسی کو رحمت دی کہ حضور مختارِ کل ہیں۔

حضرات گرامی! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو شان دی

کعبہ کو آن دی، اُمت کو ایمان دیا، مومنوں کو فیضان دیا، حسین کو سرداری دی،  
 علی کو شجاعت دی، صدیق کو صداقت دی، عمر کو عدالت دی، عثمان کو سخاوت  
 دی، اُہبات المومنین کو طہارت دی، ہم سب کو شفاعت دی کہ حضور مالک  
 کائنات ہیں حضور مختار کائنات ہیں۔

آپ نے زندگی کو زندگی دی۔

جان دو عالم نے ہر جینے کو جینا کر دیا  
 قریہٴ یثرب میں آئے تو مدینہ کر دیا  
 کس قدر صائم یہ ہے سرکار کا لطف و کرم  
 نعت کہنے کا عطا مجھ کو قرینہ کر دیا

## ایک احسن التجاء

اے سیدِ لولاک اے سیدِ لولاک  
 تو حسن زمیں کا ہے تو رونقِ افلاک  
 اے سیدِ لولاک

اک چشمِ عنایت ہو بندہ ہوں جرا آقا  
 سرکار کا پروردہ مُشکل میں گمرا آقا  
 آیا ہوں جرے در پہ دل چاک جگر چاک  
 اے سیدِ لولاک

آلام کا گھیرا ہے میں اس سے بچوں کیسے  
 دُنیا کے فریبوں کا میں توڑ کروں کیسے  
 بندہ ہے جِرا سادہ یہ لوگ ہیں چالاک  
 اے سیدِ لولاک

ٹوٹے ہیں سہارے سب سرکار سہارا دیں  
 دُنیا سے بچا کر اب بس پاس ہی بلوائیں  
 طیبہ کی فضاؤں میں اڑ جائے مری خاک  
 اے سیدِ لولاک

سرکار نہیں بنتی اب بات سوا تیرے  
 شبیر کے صدقے سے آلام مٹا میرے  
 کچھ لوگ یزیدوں سے بھی ہیں ظالم و سفاک  
 اے سیدِ لولاک

میں ہجرِ مدینہ میں دن رات تڑپتا ہوں  
 روضے کی زیارت کو دن رات تڑپتا ہوں  
 آنکھیں ہیں مری پُر نَمِ دِل میرا ہے غمناک  
 اے سیدِ لولاک

سرکش ہے ہوس صائم زنجیر کروں کیسے  
 اس حرص و ہوس کو میں نچیر کروں کیسے  
 نیزہ ہے نہ ترکش ہے مرکب ہے نہ فتراک  
 اے سیدِ لولاک

## در رسول کا حسن

حضرات گرامی! اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق حسین ہے اُس میں  
 سے سب سے حسین انسانوں سے اللہ فرماتا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

بے شک ہم نے انسان کو احسن صورت میں

تخلیق فرمایا۔

حضرات گرامی! سب سے حسین مخلوق انسان ہے اور انسانوں میں  
 سب سے حسین محبوب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں  
 اور تمام درباروں میں سب سے حسین در رسول ہے۔

حسین دربار بادشاہوں کے بھی ہوتے ہیں۔

دربار امرا کے بھی ہوتے ہیں۔

دربار وزیروں کے بھی ہوتے ہیں۔

در بار تاجداروں کے بھی ہوتے ہیں۔  
مگر جہاں تک دربارِ رسول کا تعلق ہے تو اس جیسا حسین دربارِ دنیا  
میں کوئی نہیں ہے۔

☆ ظاہری وجاہت میں بھی درِ رسول بے مثل ہے۔

☆ باطنی سطوت میں بھی درِ رسول بے مثل ہے۔

☆ جمال کے حوالہ سے بھی درِ رسول بے مثل ہے۔

☆ کمال کے حوالہ سے بھی درِ رسول بے مثل ہے۔

☆ حُسن کے حوالہ سے بھی درِ رسول بے مثل ہے

سرکار کے در جیسا حسین در نہیں کوئی

کوئین میں سرکار کا ہمسر نہیں کوئی

مَرَحِب تو زمانے میں کئی لاکھ ہیں صائم

دل کڑھتا ہے اس بات پہ حیدر نہیں کوئی

یہ شعر ہمارے دلوں کی آواز سے اور اس آواز کے ساتھ میں دُعا گو

ہوں اور آپ بھی دعا گو بن جائیے کہ اَللّٰهُ الْعَالِمِیْنِ اِسْلَامِ کُو عَرُوْجِ عَطَا فَرَمَا

مسلانوں میں جذبہ حیدری اُجاگر فرما ﴿آمین﴾

شہد سے طیشھی باتیں

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے نکلے ہوئے

الفاظ شہد سے بھی میٹھے ہیں اس لئے اپنے بھی اور غیر بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی میٹھی باتوں جیسی دوسروں کی باتیں نہیں ہیں۔

عزیزانِ گرامی قدر! حضور کی زبانِ اقدس سے نکلی ہوئی باتوں کی تو بات ہی نرالی ہے لیکن آپ کے بارے میں کی جانے والی آپ کی باتیں بھی بڑی میٹھی ہیں اور آسان بات کر دیتا ہوں اُن کا ذکر خیر بھی بڑا میٹھا ہے۔

اُن کی نعتیں بھی بڑی میٹھی ہوتی ہیں

اس لئے جب بھی اُن کی باتیں کی جائیں سُننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی اُن کے حسن کی باتیں اُن کے جمال کی باتیں اُن کی گفتار کی باتیں اُن کے کردار کی باتیں ان کے افعال کی باتیں اُن کے اقوال اُن کے فرامین اُن کی احادیثِ طیبہ الغرض کہ آپ کی ہر بات ہی شکر سے اعلیٰ ہے۔

شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات نطق سے  
یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے  
آپ کی باتیں بھی میٹھی ہیں اور آپ بھی میٹھے ہیں۔

کملی والا میٹھا ماہی میٹھا اُس کی باتیں ہیں  
میٹھا میٹھا لہجہ اُس کا دِہمی دِہمی باتیں ہیں

اُن نعتوں کی بات ہی کیا ہے جن میں خاص سلیقے سے  
صائم اپنی بات میں اکثر اُس کی ہوتی باتیں ہیں

اب انہیں کی بات کرنے کیلئے ان کی نعت پڑھنے کے لئے عظیم  
آواز کے ثناخوان رسول جناب محمد فاروق چشتی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف  
لائیں اور بیٹھے آقا کی بیٹھی نعت سنائیں محمد فاروق چشتی گولڈ میڈلیسٹ۔

## ثناخوانیء مصطفیٰ

عزیزانِ گرامی! ثناخوان مصطفیٰ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں کیونکہ ثنا  
خوانی رسول تو سنتِ الہیہ ہے۔

☆ اللہ ثناخوان رسول ہے۔

☆ انبیاء ثناخوان رسول ہیں۔

☆ رسول ثناخوان رسول ہیں۔

☆ فرشتے ثناخوان رسول ہیں۔

ثناخوان رسول ہونے کو جو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں ان کی سمجھ  
معمولی ہے جو بھی ثناخوانی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے بڑے  
ناز کے ساتھ کرتا ہے۔

بڑے ذوق کے ساتھ کیونکہ یہ وہ کام ہے جس کا اجر بے انتہا ہے اور  
یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں فخرِ ریا میں شامل نہیں ہے۔

عزیزانِ گرامی! ہر ثناخوان تحدیثِ نعمت کے طور پر فخر کے ساتھ یہ  
اعلان کرتا ہے کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جسے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کا ثناخوان ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حضرات گرامی! ثناخوان مصطفیٰ کی فہرست میں نبی بھی آتے ہیں  
ولی بھی آتے ہیں صحابہ بھی آتے ہیں اہل بیت بھی آتے ہیں اور نور والے بھی  
آتے ہیں کیونکہ ثناخوانی رسول عبادت ہے ثناخوانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم بخشش کا سامان ہے۔

میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا  
مجھ کو سرکارِ دو عالم کا ثناخواں کر دیا  
جب سے صائم چھوڑ کر طیبہ یہاں ہوں آ گیا  
میرے اشکوں نے زمانے بھر کو گریاں کر دیا

## نعت حبیب خدا

حضرات گرامی!

ہم تو نعت شریف کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہر مسلمان سرکار کی نعت کا  
صدقہ کھاتا ہے اس لئے کہ دُرود پاک بھی نعت ہی ہے اور دُرود پاک ہر  
مسلمان پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ دُرود پاک کے صدقہ سے ہمیں نعمتیں عطا  
فرماتا ہے لہذا اگر دیکھیں تو ہمیں سرکار کا صدقہ ہی ملتا ہے۔

☆ بلکہ میرا ایمان ہے۔

☆ کہ ہمیں قرآن ملا تو سرکار کا صدقہ۔

☆ ایمان ملا تو سرکار کا صدقہ۔

☆ رحمان ملا تو سرکار کا صدقہ۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے آقا و مولیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں تو ہمارے سوائے ہوئے نصیب جاگ اٹھیں گے۔

☆ ہماری پریشانیاں رفع ہو جائیں گی۔

☆ اس لئے کہ یاد رسول مقدر بناتی ہے۔

☆ یاد رسول سوائے ہوئے نصیب جگاتی ہے۔

☆ یاد رسول گرے ہوؤں کو اٹھاتی ہے۔

نبی کی یاد مقدر سنوار دیتی ہے

نظر کو چین دلوں کو قرار دیتی ہے

نبی کی نعت کو کس طرح چھوڑ دوں صائم

نبی کی نعت تو نعت ہزار دیتی ہے

نہ وہ خالی نہ یہ خالی

حضرات گرامی !

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اللہ بھی دولت مند فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی

دولت مند کرتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے فرمادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دولت مند کرتا ہے تو پھر رسول اللہ کے لئے بھی اُس خصوصیت کا ذکر کیوں فرمایا اسلئے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب کے لئے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اختیارات والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں یہ عقیدہ شرک نہیں بلکہ عین قرآن پاک کے مطابق ہے حضرات گرامی قرآن پاک کی رو سے۔

☆ اللہ بھی عطا کرتا ہے۔

☆ حضور بھی عطا کرتے ہیں۔

☆ اللہ بھی دیتا ہے۔

☆ حضور بھی دیتے ہیں۔

☆ اللہ بھی مسبب الاسباب ہے۔

☆ حضور بھی مسبب الاسباب ہیں۔

☆ اللہ بھی دینے والا۔

☆ حضور بھی دینے والے۔

☆ اللہ بھی خزانوں والا۔

☆ حضور بھی خزانوں والے۔

☆ اللہ حقیقی مالک ہے۔

☆ حضور عطائی مالک ہیں۔

استاذ العلماء شیخ المنفلوطی  
 حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب  
 حفظہ اللہ اعزاء حقیرین اولادہ

3 جلدیں مکمل

# صحیح بخاری شریف

متن و ترجمہ

فتوح سماویہ صحیح بخاری

# جمال السنن

تصنیف: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 ابو العلاء محمد بن عبد العزیز بن مبارک  
 از امامت فضائل مسکنین و کلمات نایابہ و مبارکہ

تکمیل و ترمیم: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 واحد منقوشیج

تقریباً 8 جلدیں مکمل

# صحیح مسلم شریف

متن و ترجمہ

تصنیف: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 ابو العلاء محمد بن عبد العزیز بن مبارک  
 مع حواشی و حواشی

تکمیل و ترمیم: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 امام احمد رضا صاحب دہلوی

3 جلدیں مکمل

امام احمد رضا صاحب دہلوی علیہ الرحمۃ کی تقریباً 300 تصانیف سے ماخوذ

3663 احادیث و آثار اور 555 افلاک و ضویہ

پیشکش علوم و معارف کا بیج گرانمایہ

# امجد الاحادیث

تصنیف: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 آقا سید شہزادہ بدیع الزمان

تکمیل و ترمیم: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 علامہ عظیم بریلوی

2 جلدیں مکمل

# جامع الاحادیث

مولانا محمد حنیف خاں بریلوی  
 صدر المدرسین جامعہ دار العلوم بریلوی شریف

10 جلدیں مکمل

تصنیف: مولانا محمد امجد علی صاحب  
 مولانا محمد امجد علی صاحب

# اظہار خطابت

ہر جلد میں  
 2 ماہ کے خطبات

زبیدہ سنٹر، ۴۴، اردو بازار لاہور  
 فون: 042-7246006

# شعبہ برادرز